



YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN

YOUTH DEBATES

Friday, July 05, 2013

The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at forty minutes past nine in the morning with Madam Deputy Speaker (Miss Aseella Shamim Haq) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

ELECTION OF THE PRIME MINISTER

OF YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN

Madam Deputy Speaker: Honourable Members, before we start the election of the member who commands the confidence of the majority of the members of the Youth Parliament Pakistan, I shall explain the procedure to be adopted. Before the process for the election commences the bells will be rung for one minute to enable the members who are not present in the Chamber to be present. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be closed and the Parliament staff posted at each entrance shall not allow any entry or exit through these entrances until the process of election has concluded.

I have allocated separated lobby to each of the candidates where tellers have already been posted with members' division list to record the votes. The constituency number of each member has been given on his/her desk in front of him/her. The honourable members are requested to note their respective constituency number. The member shall pass in single file through the entrance of the lobby allocated to the contesting candidate whom they wish to support. On reaching the desk of the tellers each member shall in turn call out the constituency number allocated to him/her. The teller shall mark his/her number on the division list simultaneously calling out the name of the member. In order to ensure that his/her vote has been properly recorded the member shall not move until he/she has clearly heard the teller calling out his/her name. After a member has recorded his/her vote he/she shall not return to the Chamber until the bells are rung on the completion of the process. When Speaker fines that all the members who wish to vote have recorded their votes she shall announce that the process has concluded.

Thereupon, the Secretary Youth Parliament Pakistan shall have the division list collected for counting the recorded votes for each candidate and shall then present the result of the count to the Speaker. The Speaker thereafter shall direct that the bells to be rung for one minute to enable the members to return to the Chamber. The Speaker shall announce the result of the election and declare the name of the member who commands the confidence of the majority of the members of Youth Parliament of Pakistan.

Now we start the process of the election, bells will be rung for one minute to enable members not present in the Chamber to be present.

(Bells were rung)

Madam Deputy Speaker: All the entrances to the lobbies shall now be closed.

(On this occasion the lobbies were closed)

Madam Deputy Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Youth Parliament Pakistan 2007, I read out the names of candidates for the ascertainment in order in which the nomination papers were received. The nomination papers for Rana Faisal Hayat (YP22-Punjab05) from Blue Party and Mr. Ali Humayun Zafar (YP58-Sindh10) from Green Party were received today. The honourable members who wish to vote in favour of Rana Faisal Hayat should proceed to the lobby on the back side of this Hall for recording of their votes. The honourable members who wish to vote in favour of Mr. Ali Humayun Zafar should proceed to the lobby on my right side for recording their votes.

(The balloting process was started.)

Madam Deputy Speaker: Bells be rung for one minute to enable the members to return to the Chamber.

(Bells were rung)

Madam Deputy Speaker: Now I announce the result, Mr. Ali Humayun Zafar from Green Party has secured 13 votes and Rana Faisal Hayat has secured 21 votes and thus it has been ascertained that Rana Faisal Hayat commands the confidence of the majority of the members of the Youth Parliament Pakistan.

(Desk thumbing)

Madam Deputy Speaker: Now I request the newly elected Youth Prime Minister to take the oath.

(On this occasion the Youth Prime Minister took oath)

Madam Deputy Speaker: Now I will request the honourable Youth Prime Minister to address the House.

Rana Faisal Hayat (Youth Prime Minister): Madam Speaker, respectable Mr. Ahmed Bilal Mehboob *sahib*, Wazir Ahmed Jogazai *sahib*, my colleague members *Assalam-o-Alaikum*. This day is very important for me, as a Pakistani, as a member of the Youth, as a member of the Youth Parliament of Pakistan and as a Prime Minister of this House. This is a great honour for me to be elected to this post. I thank you all my members from the Blue Party who supported me and I want to talk about the future and about how we plan to go ahead with the rest two and a half Sessions and how we should lead this youth.

میڈم سپیکر! میں سوچتا ہوں کہ انسان جو کام کرے اس میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ Youth Parliament
and Parliamentarians کو PILDAT نے جو opportunity offer کی ہے اب بھی اور پچھلے کچھ سالوں سے وہ یہ
opportunity offer کرتی ہوئی آرہی ہے، اس میں بہت کچھ ہوا، لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری
resolutions آئیں، لوگوں نے بہت اچھی چیزیں propose کیں اور research کی۔

I have known a lot of people personally who came as members but left as genuine intellectual people from the youth of this country. The transformation, the change which PILDAT and Youth Parliament enabled

them during this one year which they spend over here can not be described in words. There are some other things as well I am not mentioning the local politics that goes around here

but the most question is that how can we serve here? What can we do here? How can we provide youth of the country? How can we lead the people here and how can we come up with good legislation, good suggestions and good research proposals?

میڈم سپیکر! جیسا کہ میں پہلے بھی اس ایوان میں بات کر چکا ہوں، پارٹی meetings میں بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجہ ہے، نہ صرف ہم سے پہلے والی نسلیں وہ بوجہ چھوڑ گئی ہیں بلکہ ان نسلوں کا بوجہ بھی ہے جن کو ہم نے نیچے سنبھالنا ہے۔ ہمیں پاکستان اس حالت میں مل رہا ہے جس کے لیے پریشان ہونے کی genuine ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کو اس point سے اوپر لے کر جانا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہمت ہار چکے ہیں۔ جہاں بہت ساری international conspiracies ہو رہی ہیں، پاکستان ان حالات سے گزر رہا ہے کہ کسی بھی دن اخبارات میں پڑھنے کے لیے اچھی چیز نہیں ملتی۔ جناب والا! this is our prime responsibility اور یہ سارا burden میرے، آپ کے، اس ایوان کے کندھوں پر ہے کہ ہم نے پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے۔ Madam Speaker, as a Prime Minister of Youth Parliament Pakistan I would like to tell you and the House کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میں، میرے ممبران، میری کابینہ کے لوگ، میری کمیٹی کے ممبران کسی کام پر محنت کریں they come up with a proposal and I am sure ہم کام کریں گے تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اگر وہ کوئی اچھی proposal بناتے ہیں جیسے اس سال Youth Parliament میں پہلے بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے but the thing is that I do not want کہ میری team کام کرے اور اس کے بعد ہم tangible changes نہ لاسکیں۔

میڈم سپیکر! میں نہیں چاہتا کہ میری ٹیم اور میری پارلیمنٹ کے لوگ کام کریں، changes propose کریں، resolutions، حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے بہت heated debates ہوں اور پھر اسے set aside رکھ کر نئی resolution پر کام شروع ہو جائے۔ what we want is this is not what we want, what we want is resolution لائیں، جس concerned department کے لیے resolution لائیں، اس کا متعلقہ وزیر، چیئرمین کمیٹی and one person from the Opposition shadow Minister اس department کے Provincial or Federal Minister وہ جس بھی category میں fall کرتا ہے if it is under the province or if it is under the federal government اس کے in touch ہوں۔ اگر انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو ان سے کچھ سیکہ کر آئیں اور انہیں پتا چلے کہ پاکستان کے نوجوان کس حد تک محنت کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم energy crisis پر report بنائیں اور solutions دیں تو انہیں پڑھ کر Chairman Planning Commission بھی کہے کہ نوجوانوں نے کوئی کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم agricultural development پر کوئی report or proposal بنائیں تو Federal Minister for Agricultural بھی on the floor of the National Assembly اس بات کو acknowledge کریں کہ ان نوجوانوں نے کام کیا ہے اور یہ آگے vision لے کر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر economy کے لیے ہم کوئی proposal بنائیں، ہم کوئی چیز suggest کریں تو لوگوں کو فرق نظر آنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو موجودہ حکومت سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ مجھے کافی دنوں سے ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، رات کو کوئی پندرہ منٹ کا وقت ملا

and anchors were all over the place and they تو میں نے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ IMF سے قرض لیا ہوا تھا were after the government. ہمیں ایک چیز خود بھی سمجھنی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانی ہے کہ جب ہم اس fact کو establish کرتے ہیں، ایک unanimous agreement کرتے ہیں کہ ہماری نسل اپنا پیٹ کاٹ کر پاکستان کو آگے لے کر جائے گی، اپنی قربانی دے کر اس پاکستان کے لیے کام کرے گی کیونکہ یہ change ایک رات میں نہیں آئے گی، یہ پوری نسل کی change ہے، اس میں پندرہ بیس سال لگیں گے۔

میڈم سپیکر! میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ان چیزوں پر کام کریں تو لوگوں کو ہمارا جذبہ نظر آئے اور ہم جو کام کریں گے، انشاء اللہ جو محنت ہوگی وہ اس ہال، مارگلہ ہوٹل یا اسلام آباد تک limited نہ ہوگی کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ماشاء اللہ اس پارلیمنٹ میں بہت سارے capable, professionals سمجھدار لوگ موجود ہیں، ان میں doctors, engineers, political scientists, anthropologists موجود ہیں، ان میں انشاء اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کریں گے کہ utilized the capabilities at the best.

میڈم سپیکر! ہم نے in principal یہ سوچا ہے کہ it's about time کہ ہم اس Youth Parliament کو مارگلہ ہوٹل کے دروازوں سے باہر لے کر جائیں، honourable people from the Secretariat پہلے بھی لوگوں کو لاتے لے جاتے رہے ہیں لیکن میری یہ recommendation بھی ہے اور میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ انشاء اللہ ہم اس کو مزید expand کریں گے۔ We touch the power corridors, we touch the unbeatable kings of Pakistan from the past sixty years, I mean the bureaucracy. We touch the security establishment, the most important issue جس پر میں نے اگلے دن اس ایوان میں بیس منٹ بات کی ہے۔ میڈم سپیکر! میں چاہتا ہوں کہ سب سے ضروری چیزوں صحت اور تعلیم پر ہم ایک ایسا نظام لے کر آئیں جس پر ہم already کام کر رہے ہیں۔ Yesterday, when this House, this party honoured me with this position کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسی proposal بنا کر دیں جس کو میں اپنی پارٹی اور اس ایوان سے share کروں، from both the parties ایک کمیٹی بناؤں، انہیں کہوں کہ اس پر کام کریں اور صرف کام یہ نہیں ہو کہ مجھے one liner ملے کہ we want single curriculum, No, we will also give you the way to implement the single curriculum.

میڈم سپیکر! ہم نے ایک lay man کے لیے سوچنا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تمام صوبوں سے، rural and urban areas سے، ایجنسیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، I want ask them to come up with such a proposal کہ ہر آدمی basic facilities of health and education سے مستفید ہو سکے۔ اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی صحت اور تعلیم کے بارے میں نہ سوچے، وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچے، یہ ہمارا فرض ہے ورنہ ہم اپنی نسل کے مجرم ہوں گے۔

میڈم سپیکر! ان سارے کاموں کے لیے مجھے اپوزیشن کی طرف سے support کی ضرورت ہوگی۔ میں جو کمیٹیاں بناؤں گا، اس میں میری recommendation یہ ہوگی کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کسی بھی proposal پر کام کریں۔ میں درخواست کروں گا کہ ابھی ہم جو special committees constitute کریں گے، ان میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں، حکومت کے لوگ بھی ہوں and for this tangible change ہم جو بھی policies لے کر آئیں they should speak for itself and when I talk about change this does not mean open firing at all those

leaving aside few conventional issues جس پر میڈیا، ہمارے جیسے نوجوان اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں، everybody is talking about change and revolution. insane people in Pakistan. جس سے بات کی۔
 Madam Speaker, we need to understand what we want to change? but the tangible change that we are talking asks for a lot more. We need to accept the fact ہو سکتا ہے اس ملک میں سیاستدان ناکام ہوں لیکن اور forces ہیں جنہیں ہم نے control کرنا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ کر چکا ہوں but I want to repeat here as the Prime Minister of this House کہ over the five years, ten years, twenty years and fifty years ہم نے جو بھی judgment criteria رکھنا ہے، اس میں politician تو answerable ہوئے ہیں، وزراء ہوئے ہیں، وزراء اعلیٰ ہوئے ہیں، صدر اور وزراء اعظم ہوئے ہیں، they have been sent abroad in exile, they have been sent to jails, they have faced cases and they have gone to people to answer for what they have done every five years. Well, it has been a blessing one that they have completed the five years terms.

میڈم سپیکر! ہمیں ہر چیز کو answerable and accountable بنانا ہے۔ ہمیں the unbeatable kings, I spoke previously کہ اس bureaucracy کو control کرنا ہے۔ ہمیں ہر چیز پر check and balance رکھنا ہے۔ میڈم سپیکر! ہم ایسا نظام برداشت نہیں کریں گے جس میں عوام کو جواب بھی دیا جاتا ہے اور عوام کی گالیاں بھی کھاتے ہیں، ہر پانچ سال بعد عوام کے پاس بھی جاتے ہیں، دن رات ہر بات کا blame بھی لیتے ہیں، ان کا لینا بھی بنتا ہے، وہ تو لیں justify but جو core ہے، ایک وفاقی وزیر ہے تو اس کے نیچے on average دو، تین تین، ہزار لوگ اس کی وزات میں کام کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی performance پر جواب دہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں وہ تیس تیس سالوں سے فرعونیت پھیلا رہے ہیں، وہ وہاں سے ہلے تک نہیں ہیں۔ ہمیں ہر کسی کو accountability کے دائرے میں لانا ہو گا، I do because I want to tell them one thing very clearly، not want to go too long اور چیئرمین کمیٹی بنیں گے، that we will give deadlines, we need reports and not just reports from anywhere, we want reports for tangible change and if any Minister, any Chairman of the Committee is not meet deadlines, refuses to comply میں رہوں نہ رہوں، وہ نہیں رہیں گے، same day I will remove them. یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور ہم نے اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔

Madam Speaker, once again I would like to thank the House, both Opposition and the Government, the people who voted for me, the people who did not vote for me because we have to work without regardless of that. We have to work as one team and *Insha Allah* we shall show the people of Pakistan on the media forum, on the forum of National Assembly and the respective departments that youth of Pakistan is genuinely serious in serving the country. Thank you.

Announcement of Cabinet

Madam Deputy Speaker: Honourable Prime Minister, please announce your cabinet.

Rana Faisal Hayat: Thank you Madam Speaker. I have thought a lot on this and I have tried to come up with the best team. To start from the Minister for Law, I have given the name of Mr. Asad Ullah Chatha. Minister for Information Technology Ms. Zaib Liaquat. Minister for Interior Mr. Kashaf Khan Khichi. Minister for Finance Mr. Danish Raza. Minister for Information Mr. Ahmed Salman Zafar. Minister for Foreign Affairs my friend from the deprived area Mr. Yasir Abbas.

Oath of the Cabinet

Madam Deputy Speaker: Now I request the respected Ministers to take oath.

(On this occasion Cabinet took oath)

Madam Deputy Speaker: Now I request the members who wish to facilitate the honourable Leader of the House to put their names forward. I request the Leader of the Opposition to address the House.

Mr. Kashif Ali (Leader of the Opposition): Thank you Madam Speaker. I would congratulate the newly elected Prime Minister and also congratulate the outgoing Prime Minister Ms. Sanam Asif for all the brilliant work that she did. I am also glad that she will always be remembered as first women Prime Minister of Youth Parliament Pakistan but having said that I expect from the new Prime Minister that he will carry out the work on some of the areas or a lot of the areas that will left behind by the outgoing Prime Minister and with the confidence of the House he will move this House along.

مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اچھے areas کو identify کیا، انہوں نے اپنی priorities میں کافی important issues کو رکھا and I am glad that he is very confident and he is very cautious about all these things, so I look forward wherever I can cooperate with the government and I also look forward that government will cooperate with the opposition wherever possible and together we will let this House move forward on some of the important issues. But having said that کہوں گا کہ آج یہ پہلا اجلاس تھا اور آج پہلا اجلاس ہی غلط وقت پر شروع ہوا، 9:30 am پر شروع ہونا تھا لیکن وزیراعظم صاحب late آئے، اس لیے اجلاس تاخیر سے شروع ہوا۔ I expect that in future وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے کیونکہ ہم already ایک election کروا چکے ہیں، کل کا پورا دن ایجنڈے میں ضائع ہو گیا ہے، and we all must be very proud, we all must be very happy that this is a smooth transition of power, there is no doubt about that لیکن ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم resolutions and Bills لارہے ہیں تو وہ accommodate ہوں اور اس کو accommodate کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اجلاس وقت پر شروع ہونا چاہیے۔

I look forward punctuality from the Prime Minister and his cabinet. In the end, I once again congratulate the newly elected Prime Minister. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Any other member of the House who wish to facilitate the Prime Minister? Mr. Ali Humayun.

جناب علی ہمایوں ظفر: شکریہ، میڈم سپیکر! اِيَاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

Madam Speaker, first of all I would like to believe that it is my immediate duty to appreciate the efforts of some important personnel, sir Ahmed Bilal Mehboob, sir Jodat, Madam Sana and sir Wazir Ahmed Jogazai for helping us out and arranging the Sessions and fulfilling their duties full dignity and zeal. Secondly, I would also appreciate the efforts of ex-Prime Minister honourable Ms. Anam Asif and the House should acknowledge her hard work.

Now I would like to congratulate the newly elected Prime Minister Rana Faisal Hayat for gaining valuable support from the Blue Party and I hope that he will not only be fruitful to the Blue Party but also to the Opposition and will not disappoint us. I believe that the Prime Minister will take the House in full confidence in future Sessions. Last but not the least I would like to thank all the Cameramen, Reporters and the Audio Department personnel who are liable to receive a token of appreciation.

Madam Deputy Speaker: Now we will move to next agenda item. We will be having a discussion on the next generation voices publication titled "Next generation goes to the ballot box 2013". Those of you who wish to speak may raise their hands. Mr. Junaid Ashraf *sahib*.

جناب جنید اشرف: شکریہ، میڈم سپیکر! Next generation goes to the ballot box 2013 کی explanation یہ ہے کہ next generation پاکستان کے youth کو represent کر رہی ہے جو 60% around ہے۔ آپ کی youth in between 18 years to 29 years define ہوتی ہے جو اس report میں بھی دی گئی ہے۔ اس report کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی youth بہت important ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) اور عمران خان youth کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ اس میں youth کی importance کے متعلق بتایا گیا ہے اور youth کو کیا مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں بے روزگاری کا مسئلہ، آج سے پہلے انہیں ساتھ لے کر نہیں چلایا گیا، ان چیزوں کو explain کیا گیا ہے۔ اس کے لیے focus یہ ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے کیونکہ youth آپ کا asset ہوتا ہے جس آپ demographic dividend کہتے ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سیاستدان youth کو target کریں، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں کیونکہ یہی آپ کو آگے development کی طرف لے کر جائیں گے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ شہانہ افسر صاحبہ۔

محترمہ شہانہ افسر: شکریہ، میڈم سپیکر! سب سے پہلے مجھے اس report پر discussion کی timing پر تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ اس report میں mainly یہ بات کی گئی تھی کہ youth کے attitudes کیا ہیں؟ ان کی perceptions کیا ہیں؟ جمہوریت کے بارے میں وہ pessimistic ہیں یا optimistic ہیں۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ political parties or political leaders نے 2013 کے الیکشن میں youth کو کیسے cater کرنا ہے؟ وہ کیسے youth کا turn out بڑھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اسے گزشتہ اجلاس میں discuss کرتے تو یہ چیز youth کے لیے تھوڑی fruitful ہوسکتی تھی کیونکہ اس میں election کو cater کیا گیا تھا لیکن اب الیکشن گزر چکے ہیں، اب یہ ہمیں اگلے الیکشن میں help کر سکتی ہے لیکن اب ہم اسے discuss نہیں کر سکتے۔

میڈم سپیکر! دوسری بات یہ ہے کہ یہ report ایک survey پر base ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ نوجوان لوگوں سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھے گئے تو ایک survey کی credibility ہمیشہ

دو تین چیزوں پر depend کرتی ہے کہ آپ اس میں mention کریں کہ آپ نے اپنے sampling کو کس طرح select کیا؟ آپ نے اپنی کون سی sampling technique use کی؟ لوگوں کو پتا ہو گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو convenience کے حساب سے select کر لی جاتی ہیں، کچھ میں ہر چیز کو صحیح define کر کے کیا جاتا ہے۔ اس میں میں نے جتنا بھی دیکھا ہے مجھے یہ تو نظر آیا کہ ایک representative example select کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں کہاں سے اور کس base پر لوگوں کو select کیا گیا جن لوگوں نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔

میڈم سپیکر! تیسری بات یہ ہے کہ اس report میں کوئی تھوڑی بہت contradictions تھیں، شروع میں کافی کہا گیا کہ Pakistan کی youth deeply pessimistic ہو چکی ہے لیکن اس کو define نہیں کیا گیا کہ کن basis پر ان کو pessimistic کہا جاتا ہے؟ یہ چیز کہہ کر آگے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں pessimistic ہو چکے ہیں لیکن وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اتنے confident بھی ہیں کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی evidence provide نہیں کیا گیا اور اپنی ہی report کو مختلف points پر contradict کیا گیا ہے، youth کو pessimistic بھی کہا گیا ہے اور اسے future کے بارے میں confident بھی کہا گیا ہے شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم شفقت علی صاحب۔

جناب شفقت علی: شکر یہ، میڈم سپیکر! کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم generation کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وقت پاکستان میں چالیس سے پینتالیس لاکھ لوگ نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں 65% لوگ youth پر مشتمل ہیں۔ لہذا ہم یہ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ youth Pakistan کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم عبدالصمد صاحب۔

Mr. Abdul Samad Khan: Thank you Madam Speaker. There are some findings that have given in the report and I would like to bring forward in front of the House. First of all, one of the most important and it is placed on the top of the report that young people are losing confidence in the democratic system. It has been very much true

in their governance it has been very اور ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح جمہوری حکومتیں آتی ہیں اور much pathetic. سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی جمہوری حکومت آئی تو کبھی بھی local bodies elections نہیں ہوئے جبکہ تین مرتبہ آمرانہ حکومتیں آئیں اور انہوں نے ہمیشہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے ہیں۔ اب 2013 میں الیکشن ہوئے ہیں، مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہے، ابھی تک جو attitude اپنایا جا رہا ہے جس میں وزیراعظم ان صوبوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں جہاں ان کے زیادہ concerns ہیں، like Balochistan and Punjab لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ کی طرف ابھی تک ان کی نظر نہیں گئی جیسے وہ انہیں اپنا صوبہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں، وہ پنجاب یا بلوچستان جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں کے نہیں ہیں۔ وزیراعظم کو federation کے ساتھ چلتے ہوئے پورے ملک کو اپنے ساتھ لینا ہو گا، یہ جمہوری نظام کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور جب بھی یہ

جمہوری حکومتیں آئیں وہ اس طرح کی غلطیاں کرتی رہیں جس وجہ سے undemocratic forces کو chance ملتا ہے کہ وہ democratic system کو کمزور بنائیں۔

میڈم سپیکر! اس کے بعد یہاں ایک دوسرا point raise کیا گیا ہے کہ young women faced very high level of exclusion جو بہت درست بات کی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے اہم concern ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن میں turn out دیکھیں جو almost 60% رہا لیکن خواتین کا turn out مختلف صوبوں میں مختلف تھا۔ KPK and Balochistan میں خواتین کا turn out بہت افسوس ناک حد تک کم رہا it was around 30 to 40% in different areas رہا اور یہ بہت کم ہے۔ اس کے لیے ہمیں steps لینے چاہیں کیونکہ ایک democratic system میں آپ کو جب تک total turn out نہیں ملتا is better than previous results but now we have to like it should be more 60% is better than previous results but now we have to move forward and we have to give chance to strengthen the democratic system. involvement زیادہ بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے اقدامات کرنے چاہیں۔ جس طرح چین والوں نے ایک statement دی ہے کہ ہمارے پاس working class age بہت کم ہو چکی ہے and we should concentrate on that. اب چین والے اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ how to overcome this problem and they are planning that۔ اسی طرح ہمیں بھی اس سنگین مسئلے کو cater کرنا چاہیے۔

میڈم سپیکر! یہاں یہ بات کی گئی کہ youth کو تعلیم فراہم نہیں کی گئی and they are not invent direction, they have to think about a lot of directions, لوں تو کس طرح لوں، میں کس کو ووٹ دوں اور کس کو نہ دوں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو short term and temporary آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں مثلاً الیکشن کے دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دیتے ہیں تو at the end of the day یہ ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ مل جاتے ہیں and they are in the power which is a kind of shortcomings of this democratic system in Pakistan. چاہوں گا کیونکہ وہاں سے پاکستان کو بہت زیادہ گلہ رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو کوئی output نہیں دے رہے، وہاں الیکشن میں اس طرح حصہ بھی نہیں لیا جاتا۔ وہاں سے terrorism کی جتنی بھی ہوا پورے ملک میں چل رہی ہے اس لیے پورے ملک کو ان سے گلہ رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 65 سالوں میں پاکستان کے باقی شہروں میں جو facilities provide کی جاتی ہیں جبکہ آپ قبائلی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں basic necessities of life نہیں ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے کافی حصوں کو محروم رکھا گیا۔ آپ کو اپنے democratic system کو بہتر بنانے کے لیے social sector development, education and health کو improve کرنے کے لیے steps اٹھانے پڑیں گے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ابھی نئی آنے والی حکومتوں نے social sector development کے لیے پیسے مختص کیے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ shortcomings ہیں۔ خیر پختونخوا کا تعلیم کا سابق بجٹ جو estimated تھا اور جو expenditure تھے، there has been 60% of what was the estimate, so this is a very huge shortcoming, چھیا سٹھ ارب روپے تک لے جاچکے ہیں جبکہ آپ کے سابق expenditures آپ کے estimate کے برابر نہیں تھا، only 60% of the estimate was expended. آپ تعلیم کے بجٹ کو اتنا بڑھا رہے ہیں تو آپ اسے کہاں پر

خرچ کریں گے؟ اسے تھوڑا سا clarify ہونا چاہیے۔ اسی طرح باقی صوبائی حکومتوں کا بھی یہی حال رہا ہے، اس میں بہت زیادہ shortcomings ہیں جو اگلے اجلاس میں ایک رپورٹ میں آپ کو پیش کی جائیں گی۔

میڈم سپیکر! آپ قبائلی علاقوں کو improve کریں، یہاں democratic system تب improve ہوگا جب لوگوں کے پاس تعلیم ہوگی، جب social sector develop ہو گا۔ اب جس طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے کچھ پارٹیوں کی طرف سے کہ آپ finger prints کو evaluate کریں اور recounting کریں۔ اب جب clear majority کے ساتھ ایک حکومت آگئی ہے جس کے گرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایک پارٹی مطالبہ کر رہی ہے تو اسے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اس system پر rely کیا ہے اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ چیز democratic system کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتی ہے اور لوگ اس پر rely کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس مرتبہ 60% turn out رہا ہے اگر ہم اس process کو carry out نہیں کرتے تو may be اگلی مرتبہ turn out کم ہو جائے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم فیضان ادریس صاحب۔

جناب محمد فیضان ادریس: شکریہ، میڈم سپیکر! اس report میں پاکستان کی economy کے کچھ areas کو بھی touch کیا گیا ہے اور اس میں low growth high inflation environment کی بات کی گئی ہے۔ اس میں recent survey ایک we are already short of employment opportunities. کہ صرف یہ چیزیں add کرنا چاہوں گا کہ 36 million jobs create کرنے کی ضرورت ہے which makes around 3.6 million jobs per year لیکن اگر ابھی آپ market کی situation دیکھیں اور جو environment چل رہی ہے کہ اس وقت آپ کا کوئی foreign or local investor آپ کی market میں invest کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کی 200-09 کی petroleum policy کی مثال دوں گا کہ وہ اتنی کمزور policy تھی کہ پچھلے چار سالوں میں کسی foreign investor نے کسی بھی bid میں participate نہیں کیا اور کوئی foreign company اس field میں نہیں آئی۔ 2012 میں آپ نے ایک نئی petroleum policy introduce کرائی جس میں well head price جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ well head price یہ ہوتی ہے کہ جب آپ drilling سے تیل یا گیس produce کرتے ہیں تو at the point of exploration or production کی جو price آپ investor کو دیتے ہیں وہ حکومت نے تھوڑی سی improve کی جسے ہم well head price کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پچھلے چار سالوں میں ابھی تک کوئی foreign investor پاکستان میں نہیں آیا۔

میڈم سپیکر! میں اس میں ایک اور چیز discuss کرنا چاہوں گا کہ youth جو 60% population of Pakistan ہے، 77% of youth showed their interest in political system of Pakistan. 77% of youth، آرمی، عدلیہ اور religious counters پر اپنا confidence show کیا ہے۔ یہ چیز ایک طرح سے show کرتی ہے کہ ہمارا political system ابھی بھی political system as compare to judiciary, civil or military bureaucracy اتنا strong نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان آج بھی اتنا capable نہیں ہے، اتنا educated نہیں ہے جتنی ہماری civil and military bureaucracy ہے۔ ہمارا سیاستدان، ہمارے وزیر آج بھی آپ کی bureaucracy پر dependent ہیں، آپ کی foreign policy آج بھی کہیں سے dictate ہوتی ہے، آج بھی آپ کا بجٹ کوئی اور بناتا ہے۔ We need to think

that in the next coming years جو پارلیمنٹ آئے گی اور جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں educated لوگوں کو منتخب کریں، especially Cabinet میں صرف ان لوگوں کو portfolio ملنے چاہییں جو لوگ اپنی اپنی field میں specialize ہوں، experts and technocrats ہوں تاکہ پاکستانی کی economy کو تھوڑا سا relief مل سکے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: There were several very interesting points in the report in their key findings in which I found one point extremely interesting and it says that the youth is united, like it stands together for one thing. You guys feel that is true? Ms. Momna Naeem *sahiba*.

Ms. Momna Naeem: Thank you Madam Speaker. Some of the key findings are stated here اور ان میں سے مجھے جو ایک اچھی لگی ہے just one in that was young people are starved of opportunities, ten young people is in stable employment. یہ بات ہماری کل والی resolution کو refer کرتی ہے جو میں نے اور ریحان صاحب نے پیش کی تھی کہ نوجوان لوگوں کے پاس opportunities کی بہت کمی ہے۔ وہ جب پڑھ کر نکلتے ہیں تو obviously انہیں نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود کو اور اپنے خاندان کو سنبھال سکیں۔ ہمارے ہاں اس وقت unemployment سب سے اہم مسئلہ ہے۔

میڈم سپیکر! اس report کے حوالے سے میرے نزدیک دوسرا اہم مسئلہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ تعلیم کو دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے بجٹ میں تعلیم پر مزید ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد health sector ہے جس میں بھی کافی policies implement نہیں ہو رہیں اور جو ہو رہی ہیں ان میں ایسی خامیاں ہیں جنہیں review کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد security issues آتے ہیں۔ اس پاکستان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس وقت secure ہو۔ کسی بھی جگہ جانے کے لیے، اپنا point of view بیان کرنے کے لیے یا وہ کام کرنے کے لیے جس کا اسے دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہاں محسوس ہوا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں disappointment بہت زیادہ ہے ہم basically cater کر سکتے ہیں یا اس کا حل میڈیا کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ I was yesterday Chairperson Standing Committee on Information اور ہم اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارا میڈیا، ہماری نوجوان نسل یا ہماری قوم کو disappointment کو cater کر سکتا ہے۔ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے انہیں awareness دے سکتے ہیں، ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم میڈیا پر مختلف پروگرام چلا سکتے ہیں جن میں ہماری نوجوان نسل یا ہماری قوم کے مختلف معاملات پر discussion ہو۔ میڈیا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، اگر print media ہے تو ہم اخبارات میں articles دے سکتے ہیں، ریڈیو ہے تو اس پر ہم پروگرام چلا سکتے ہیں، ٹی وی چینلز ایسے پروگرام چلا سکتے ہیں جہاں نوجوانوں کے متعلق بات کی جائے، انہیں education دی جائے، انہیں security or self defence کے متعلق تربیت دی جائے۔

میڈم سپیکر! اس کے بعد جمہوریت کے بارے میں کافی دوستوں نے بات کر لی تو میرا نہیں خیال کہ

I would like to quote Allama Iqbal here that; البتہ کی ضرورت ہے۔

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے۔

Madam Deputy Speaker: Now I would to request Honourable Ahmed Bilal Mehbod *sahib* to come here address us and lead the discussion.

جناب احمد بلال محبوب (President PILDAT): بسم الله الرحمن الرحيم. بہت شکریہ، میڈم سپیکر! آپ نے میری درخواست کو قبول کیا۔ میں بالعموم آپ کی گفتگو سننے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور آپ کے خیالات جاننے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن آج میں نے خاص طور پر خود درخواست کی کہ میں پانچ منٹ کے لیے ایک نکتے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ یہ ساٹھ اکٹھ لوگوں کی Youth Parliament, Pakistan کے نوجوانوں میں سے chosen لوگ ہیں، میرے خیال میں جسے کہتے ہیں 'crème de la crème' یعنی یہ منتخب لوگوں میں سے بھی منتخب لوگ ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس ملک کے نوجوانوں کے think tank قرار دیے جائیں تو وہ بھی غلط نہیں ہو گا، اس لیے کہ نوجوانوں کے معاملات میں غور و فکر کرنے کا، deep thinking کرنے کا اور اس کے بارے میں پھر حکومت کو اور عوام کو کچھ solutions propose کرنا یہ بھی آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، آپ اپنا بہت قیمتی وقت اس کے لیے دیتے ہیں۔ Secretariat بھی اپنا کچھ وقت اس پر serve کرتا ہے اور اس ساری مشق کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہے اور پورے setup میں involve لوگوں کا وقت بھی ضائع ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف اس کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ یہاں جو ایک ایک منٹ serve کرتے ہیں، وہ اس consciousness کے ساتھ، اس علم کے ساتھ آپ کو گزارنا چاہیے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ اور اہم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔

آپ اس وقت کو جس طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ report جو آپ کو distribute کی گئی ہے، اس report میں بہت سی اچھی اور اہم چیزیں ہیں لیکن جس طرف میں خاص طور پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ four pages کا ایک چھوٹا سا article ہے جس کا 'The turning tide' topic ہے۔ میرے خیال میں آج کی دنیا میں، آج کے دور میں پاکستان کے نوجوانوں کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ کون سا اہم ترین نکتہ ہے جس پر انہیں سوچ بچار کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی حل تلاش کرنا چاہیے تو وہ یہ subject ہے جس کو اس four pages کے article نے cover کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس article کو بار بار پڑھیں، اگر اسے comprehend کرنے میں، سمجھنے میں ایک بار دشواری ہو رہی ہو، مجھے بھی ہوئی تو آپ اسے دو بار پڑھیں، تین مرتبہ پڑھیں، آپس میں informal discussion کریں اور اس ایوان میں kindly اسے ضرور discuss کریں۔ اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں صدیوں بعد یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہم اپنی گفتگو میں بعض اوقات الفاظ بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، صدیوں کے بعد ایسا موقع آتا ہے کہ کسی قوم کو ترقی کا ایسا موقع ملے، اپنی demography کے اعتبار سے، اپنی آبادی کے اعتبار سے جیسا اس وقت پاکستان کو نصیب ہے۔ اس میں نوجوانوں کی پوری آبادی میں نسبت اور ratio ایسی ہے جب دوسرے ملکوں میں یہ ratio achieve ہوئی، جیسے South Korea کی مثال دی گئی ہے، امریکہ کی مثال دی گئی ہے، یورپ اور چین کی مثال دی گئی ہے کہ ان ملکوں نے بہت تیزی سے ترقی کی جب ان کے نوجوانوں

کی ایک critical mass ایک تعداد ان ملکوں میں ہو گئی۔ جب وہ تعداد decline ہو گئی تو ترقی کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔

اس میں جو اہم نکتہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان غالباً اس دنیا کا وہ واحد ملک ہو گا جس کا بڑا امکان ہے کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد اس critical mass کے مطابق ہوگئی جہاں دوسرے ممالک کی ہو گئی تھی لیکن اس کے مطابق ترقی کی رفتار تیز نہیں ہوئی۔ شاید یہ صدیوں کا موقع ہمیں نصیب ہوا ہے یہ بغیر کسی فائدے کے گزر جائے، اس بات کا بہت امکان ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس پر پاکستان کے ہر شخص کو بہت پریشان و حیران ہونا چاہیے اور میرے خیال میں نوجوانوں کو سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ ان اسباب کو خود پڑھیں، خود انہیں comprehend کریں اور خود اس پر discussion کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان تو double edge sword ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں train کر دیں گے تو وہ کسی ملک کا asset بن جائیں گے اور اگر انہیں educate نہیں کریں گے، انہیں train نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی ملک کی سب سے بڑی liability بن جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، آپ کو اس وقت ہمارا جو crisis نظر آ رہا ہے، چاہے وہ terrorism کا ہے، law and order کا ہے، low rate of development کا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے بنیادی طور پر یہ حقیقت چھپی ہے کہ ہم نے، پاکستان کی society نے اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت نہیں دی جس کی بنیاد پر وہ کسی society کا asset بن سکتے اور ترقی کو accelerate کر سکتے۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔

میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے نومنتخب وزیراعظم اور نئی کابینہ وہ خاص طور پر اور تمام ممبران عمومی طور پر، Leader of the Opposition کے comments میں سن رہا تھا، انہوں نے بہت مختصر comments دیے لیکن بہت پختہ اور mature comments تھے جو ہماری real Parliament میں بھی بعض اوقات آپ کو اس level کی پختگی اور اختصار نہیں ملتا یعنی آپ concise بھی ہوں اور نکتے کی بات بھی کریں۔ ہم بعض اوقات ایک چھوٹا سا نکتہ بیان کرنے میں بہت لمبا وقت لے لیتے ہیں جیسے میں نے اب لے لیا ہے لیکن مختصر اور to the point بات کرنا یہ ایک quality ہے اور میں اس کا بہت بڑا قدر دان ہوں۔ میں آپ سب سے، نو منتخب وزیراعظم صاحب سے، حزب اختلاف سے، وزراء سے امید رکھتا ہوں، آپ تمام لوگ سوچنے والے لوگ ہیں کہ آپ اس پر سوچیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے کہ اس محوری اور بنیادی نکتے پر آپ debate کریں اور اس پر اپنی کوئی recommendation بنا کر حکومت کے لیے تیار کریں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم حکومت کی مدد کریں، ان سے ملیں اور ان کی اس طرف توجہ دلائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you Mr. Ahmed Bilal Mehboob *sahib* for pointing us in the right direction. Mr. Mateehullah Tareen.

جناب مطیع اللہ ترین: شکریہ، میڈم سپیکر! میں اس report کو clause by clause treat نہیں کروں گا but

I will talk a little about the youth in Pakistan regarding the report. In fact that Pakistan is among the nations which have the largest number of youth under the age of 30 which is about 60% and it is in the top three countries of the world. کسی ملک کی ترقی میں اس کے human resource کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جیسے

ابھی جناب بلال احمد محبوب صاحب نے فرمایا کہ جب تک اس human resource کو ایک right direction میں move نہیں کیا جاتا، وہ ایک liability بن جاتی ہے۔ جب اسی human resource کو ایک right direction میں technically expert بنا کر technical expertise کے ساتھ، technical education کے ساتھ move کیا جاتا ہے، وہی youth and human resource آپ کی development and success کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ One population and youth especially when it is in majority is equal to all the resources of the country that you have under the ground or on the surface of the ground in your state. Youth definitely is a solution to all the problems in a country, they have the capacity and capability especially in this very youth of the Sub-continent. In fact in broader terms کہ ان میں یہ capacity and capability and enthusiasm ہے کہ وہ ساری problems کے لیے solutions find کر سکتے ہیں given the fact کہ ان کے لیے ایسے platforms مہیا کیے جائیں جیسے ہمارے لیے ایک platform مہیا کیا گیا ہے کہ ہم یہاں آکر پانچ اجلاسوں میں کچھ چیزوں کو discussion کرتے ہیں، ان کو point out کرتے ہیں اور ان کے لیے recommendations and solutions تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

میڈم سپیکر! جنید اشرف صاحب نے الیکشن کے بارے میں بات کی اور 2013 in fact the elections میں change کی evidence that youth can make change and youth almost did that but it was in the terms of the turn out that we saw in the ایک specific political party کی طرف نہیں تھی elections of 2013. Youth اس point سے prove کر دیا۔

Madam Deputy Speaker: I think Mr. Mateeullah Tareen brought up some really important points. In light of Mr. Ahmed Bilal Mehboob *sahib's* speech, I would just like to say that besides education, I also feel that the youth sort of feels politically alienated. They have been left out of the decision making process, the power corridors you do not see any young person vigorously working for the country. Besides that I feel like Pakistan is also experiencing a very drastic brain drain. The youth i.e., even educated it's not being exploited. It's disillusioned, it's lost faith and it's leaving the country. So I feel like the most important thing for the state to do right now would be to contact those educated individuals glean whatever they can from the intellectual powers that they have gathered and sort of make those individuals work for the rest of the country, for the rest of the youth, so that ultimately the youth can stand together at one point and be united. Ms. Sitwat Waqar *sahiba*.

محترمہ سطوت وقار: شکریہ، میڈم سپیکر! میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے نزدیک youth کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے educated sector میں انہیں تعلیم مل رہی ہے but there is no value system being taught ان engineering, doctor and all of these things ہمیں in our education system. لوگوں کو اپنے skills سکھائے جا رہے ہیں but there is no vision is being taught in our education system. لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو western education دی جاتی ہے، they become westernize, they obviously get influence by the western culture. text books کو پڑھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی discrepancy آجاتی ہے، ان کی thinking میں بہت بڑا gap آجاتا ہے۔ I think that's why they do not become unite, they can not unite on the same thing, even when you talk about democracy, even then does democratization means that we should westernize our country, what is our actual value, what are actual

vision, what are actual ideology is? I think وہ differences ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی تعلیم ایک جیسی نہیں ہے، ہم لوگوں کو value system نہیں پڑھایا because of that we don't really know where we should take the country forward in which direction, what جا is the vision of our country? Even our state we don't know at the moment are we going secularization کی طرف جا رہے ہیں یا terrorism یا طالبان کے یہ سارے episodes آرہے ہیں، towards the Islamization of the country? There is no direction that is outlined. I suppose that leads to differences between the youth and also lack of unity as a result. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم احمد سلمان ظفر صاحب.

جناب احمد سلمان ظفر: شکریہ، میڈم سپیکر! سب سے پہلے میں جناب احمد بلال محبوب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ It is really an important issue for such an enlightening monologue. It is really very appreciable. Now coming to the point, اس حوالے سے جو بھی کام کر رہا ہے، میں اس حوالے سے تھوڑا سا مزید elaborate کرنا چاہوں گا، major chunk of our youth کی 19 to 30 age majority میں fall کرتی ہے، it means کہ ہماری population lies in that age bracket. depend کرنا ہے اور ہم جیسے privileged and educated لوگ جن کے پاس facilities ہیں، جن کے پاس educational and job opportunities ہیں کہ وہ انہیں اس قومی دھارے میں کیسے لاتے ہیں تاکہ وہ اس ملک کا asset بن سکیں نہ کہ liability.

میڈم سپیکر! آپ نے بھی brain drain کے حوالے سے بات کی اور یہ بات کی کہ a major chunk of young population of this country feel themselves alienated. جو recent elections ہوئے ہیں اگر آپ اس کا turn out دیکھیں 55% سے زیادہ ہے، یہ بات کی کہ disagree کرتا ہوں، ابھی fact that وہ youth جو پہلے اپنے آپ کو alienated سمجھتی تھی، وہ youth جو پہلے political activities میں enthusiastically, energetic participate نہیں کرتی تھی، وہ گھروں سے نکلے ہیں، انہوں نے political activities میں حصہ لیا ہے اور اپنے آپ پر responsibility لی ہے۔ So it is the beginning step. As far as I think it means - at least we are going in the right direction.

میڈم سپیکر! آپ نے brain drain کی بات کی، یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم ایک term use کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈاکٹروں کو cream کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئرز ملک کی cream ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ scholars and social sciences میں research کرنے والے cream ہیں، میرے خیال میں اس ملک کی actual cream وہی ہے جو اپنے آپ کو اس ملک میں lack of opportunity کی وجہ سے، lack of quality، particularly USA, UK، education and lack of employment opportunity سے بہتر رہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم privileged لوگ ہیں جنہیں opportunity ملی ہے، یہ prestigious platform Youth Parliament Pakistan کو convince کریں کہ آپ کا stake

پاکستان میں ہے۔ باہر پڑھنا کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ملک کو واپس ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو وہ دماغ، وہ quality human resource جو USA, UK جا کر settle ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں convince کریں کہ وہ واپس آئیں اور towards the progress and development of this country fruitfully اور contribute کریں۔

میڈم سپیکر! میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ a platform like Youth Parliament Pakistan. Again and again I am reiterating this fact result کا recent elections ہے اور ان political awareness بہت ضروری ہے اور انہوں that it is indicative of the fact that we particularly the youth of Pakistan is going in the right direction. نے اپنی responsibility کو realize کیا ہے، گھروں سے نکلے ہیں، ووٹ ڈالے ہیں۔ میں Secretariat سے بھی درخواست کروں گا کہ Youth Parliament Pakistan کے اسلام آباد میں اجلاس ہوتے ہیں، اسے مزید expand کیا جائے اور اسے provincial level پر بھی لے کر جایا جائے۔ I think all of you might know that already۔ Khyber Pakhtunkhwa کی provincial Youth Assembly inaugurate ہو چکی ہے، اس سال ان کا پہلا batch induct ہو چکا ہے، اس لیے میں Secretariat اور آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی collective efforts سے کچھ اس طرح کی policy formulate کریں، دوسری organizations کو reach out کریں کہ باقی صوبے particularly ہمارے Punjab، Sindh and in Balochistan، in deprived areas e.g., میں اس طرح کے forums، platforms ہونے چاہئیں تاکہ وہ talented، educated youth جو صرف lack of opportunities، lack of quality educational opportunities کی وجہ سے اور lack of this kind of prestigious opportunities سے اپنے آپ کو alienated feel کرتے ہیں اور fruitfully contribute نہیں کر سکتے، انہیں بھی اس دھارے میں شامل کیا جاسکے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you Mr. Ahmed Salman Zafar *sahib*. I agree with very much everything that you have said. With the point that I was trying to make is that yes, we voted, we went out of our homes, we cast the votes but ultimately is voting enough? Mr. Junain Ashraf *sahib*.

جناب جنید اشرف: شکریہ، میڈم سپیکر! آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ youth is united or not? ایک چیز یہ ہے کہ youth صرف مسائل کی طرف united ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ان پر agree کرتی ہے لیکن جب solutions کی بات آتی ہے تو اس بات پر youth united نہیں ہے۔ اس چیز کا حل یہ ہے کہ youth کو آپس میں compromise کی طرف جانا چاہیے، patience and tolerance سے کام لینا چاہیے۔ کوئی چیز ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک evolutionary process ہوتا ہے even آپ کا اس وقت number one country USA بھی جب آزاد ہوا تو انہوں نے بھی ستر سالوں تک civil war لڑی، اس کے بعد development ہوئی تھی، یہ development کوئی راتوں رات نہیں ہوئی۔

میڈم سپیکر! آپ نے دوسری بات alienation کی کی ہے، youth alienated تو ہے اور صرف ووٹ کے لیے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگانے سے وہ system کا حصہ نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ پچیس سال سے لے کر اکتیس سال کی youth کو آپ الیکشن لڑنے کے لیے encourage کریں، وہ MNA and MPAs کی seats پر آئیں تاکہ وہ اس system کا حصہ بنیں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کریں۔

شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر : محترم ریحان نیاز صاحب۔

جناب ریحان نیاز خان: شکریہ، میڈم سپیکر! میں یہاں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، سب نے بات کی کہ ہم privileged youth ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، ہم پتا نہیں کیا ہیں۔ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو آگے آجائیں گے۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں کہ وہ اپنے مقامی سیاسی نمائندے کو جا کر ملیں او اس سے کہیں کہ میں ایک privileged youth ہوں، اس کا اگلا سوال ہو گا کہ آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ آپ الیکشن میں مجھے کتنا help out کریں گے؟ اس کو میری پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہو گا، وہ میرے پیچھے سر گئے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور یہ کتنے ووٹ لے کر آئے گا۔ میں بہت سارے لوگوں کے پاس جا چکا ہوں، بہت سے MNAs کے پاس جا چکا ہوں، آخر میں ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں پانچ ووٹ ہیں، آپ کی لوگوں کے ساتھ کتنا میل جول ہے۔ اگر میرا علاقہ اس کی constituency میں نہیں آتا تو وہ مجھے کبھی بھی help out نہیں کرے گا۔

میڈم سپیکر! جہاں تک change کی بات ہے کہ youth change لاسکتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں تو سارے black minded ہوتے ہیں، ہمیں environment کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ باہر کیا environment ہے۔ ہم اس environment میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے، وہ وہاں پر کرپشن کرتا ہے۔ شروع میں ہمیں یہ بات غلط لگتی ہے، آہستہ آہستہ ہم اس سے use to ہو جاتے ہیں۔ تین سے چار سالوں بعد ہم خود وہ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی اسی کرپشن کی limelight میں شامل ہو جاتے ہیں جو چل رہی ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ especially اس ملک میں youth کوئی change لاسکتی بن۔ اس ملک میں change نہیں بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر : محترم رفیع اللہ کاکڑ صاحب۔

جناب رفیع اللہ کاکڑ: شکریہ، میڈم سپیکر! آخر کار آپ نے بولنے کا موقع دے دیا۔

With your kind permission I would like to take this opportunity, before talking on this issue I would like to give a comment regarding the Cabinet. First of all I would like to congratulate the honourable Prime Minister and all the members of the Cabinet. Madam Speaker, as all of you know that Pakistan is a multicultural and heterogenous country. Primarily because of this reason the founding fathers of this country prescribed a federal form of government. However, since the inception of Pakistan the federal experience has gone horribly wrong. There are multiple factors responsible for it and among the others which are relevant to my today's argument is one thing that has been threatening federal integrity in this country is the perceived dominance of one region and the grievances of the smaller provinces.

ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاء اللہ بڑے visionary بھی ہیں اور سیاسی background بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی campaign میں ہم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ deprived or minority provinces and areas کے parliamentarians کو یہاں onboard لیا جائے گا، انہیں موقع دیا جائے گا۔ I am very sorry and it is

except very unfortunate کہ میں یہاں اپنے grievance کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری جو کابینہ بنائی گئی ہے Mr. Yasir Abbas who is from Gilgit Baltistan, he is a very ambitious man and I congratulate him for getting this post. All of the Cabinet members belong to one province which I believe but I believe recently کچھ positive developments ہوئی ہیں جن سے federal integrity strong ہے but I believe that Youth Parliament Pakistan شاید ابھی تک federation کے real essence تک نہیں پہنچی۔

Madam Speaker, now coming to the topic. First of all I am grateful to sir Ahmed Bilal Mehboob for an insightful and valuable talk and to all the other parliamentarians for their valuable contributions. اکثر باتیں ہو گئی ہیں، میں یہاں ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر اتنے issues discuss ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ، brain drain, unemployment, pessimism, I believe these are all symptoms. اور جناب احمد بلال صاحب نے کہا کہ the primary and underlying reason is the education system and it is not only the education system but the quality of education system. مجھے یقین ہے او جس طرح جناب احمد بلال صاحب نے کہا، I totally agreed that youth is both potentially an asset and as well as a potential threat. Particularly in the recent scenario youth has become another tool like religion in the hands of political forces. اب بھی اب political objectives کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ Potential asset تو ہے لیکن اگر ہم نے counter potential threat کے لیے the primary goal and objective must be providing quality education and by quality education I mean an education system which not only imparts skills but also vision like Ms. Sitwat Waqar rightly said. آپ جب تک youth کو vision نہیں دیں گے، یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے potential threat ہیں۔ یہاں الیکشن کی باتیں ہوئی، یہاں بہت سے symptoms ہیں، جس طرح آپ نے rightly کہا کہ صرف الیکشن میں جانے پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، although it is a positive point but there are serious areas، اور ان میں ایک important point یہ ہے کہ آپ ہارنے کے بعد بھی اپوزیشن پارٹی کا mandate تسلیم نہیں کیا so these are negative trends and I believe آپ youth کو quality education system provide کریں، وہ اپنے لیے employment opportunities بھی create کریں گے، وہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے innovative ways کے ساتھ بھی آئیں گے My point is کہ اگر ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہمیں quality education system provide کرنا ہو گا۔

میڈم سپیکر! میں اپنی بات کے اختتام میں کہنا چاہتا ہوں کہ developed social capital جسے lexicon میں کہتے ہیں کہ

developed social capital is the key to the progress and development of any country. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم اعجاز سرور صاحب۔

جناب محمد اعجاز سرور: شکریہ، میڈم سپیکر! میں جس point پر discussion کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس report کی findings میں لکھا گیا ہے کہ this is a deeply conservative generation. اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ کچھ لوگ conservative ہیں، کچھ religious ہیں، کچھ liberals and moderates کی بات کی

گئی ہے۔ Mindset میں جو differences ہیں، سوچ میں جو differences ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخی طور پر ایک unequal socio-economic development, un-equal opportunities and national approach ایک single and balance approach use کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ پنجاب میں لاہور کو بہت زیادہ develop کیا گیا ہے، وہاں educational opportunities, وہاں development, وہاں صحت کی سہولیات وہ ملتان اور فیصل آباد میں نہیں ہیں۔ ایک unbalanced developmental approach اسی کی وجہ ہے کہ South Punjab کا نعرہ اٹھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ فاٹا اور بلوچستان کی مثال لے لیں کہ ہم ان areas پر focus نہیں کیا، ان کو ملک میں integrate نہیں کیا اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

میڈم سپیکر! میرے خیال میں مستقبل میں جو ایک alarming situation بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیہی اور شہری divide پیدا ہو رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت، تعلیم اور روزگار کی opportunities بہت کم ہیں جبکہ شہری علاقوں کے elected members شہری علاقوں میں development کو focus کرتے ہیں۔ پاکستان کی economy agriculture پر منحصر ہے۔ ہم جب تک دیہی علاقوں کو شہری علاقوں سے integrate نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے desired result حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اس بات پر زور دوں گا کہ مستقبل میں آنے والی نئی حکومتیں جو علاقے left behind ہیں انہیں main system میں integrate کرے تاکہ آج ہم میں جو ایک social divide ہے، آج terrorism اور اس طرح کے مسائل ہماری اسی طرح کی غلط policies کا نتیجہ ہیں اور مستقبل میں ان policies کو نہ دہرایا جائے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمر نعیم صاحب۔

جناب عمر نعیم: شکریہ، میڈم سپیکر! میں اس report کے ایک point کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس میں 15% لوگوں کی percentage بتائی گئی ہے کہ 15% just لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور باقی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں آگے اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس طرح 2013 کے الیکشن میں نوجوانوں کی participation زیادہ تھی۔ 2013 کے الیکشن میں جو turnout رہا اس میں main role youth کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ youth نے اس چیز کو اتنا promote کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے جیسے رفیع اللہ نے اور سطوت نے کہا کہ ایک vision provide کیا گیا ہے۔ اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح PILDAT نے ہمارے لیے ایک vision provide کیا، ہم ایک platform پر آکر اکھٹے ہوتے ہیں، ہم یہاں discussion کرتے ہیں، ہم resolutions لے کر آتے ہیں ایک parliamentary system سیکھتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں ایک vision نظر آتا ہے۔

میڈم سپیکر! اسی طرح انہوں نے quality of education کے بارے میں بات کی کہ اسے بہتر بنایا جائے، quality of education کے vision and quality کو بہتر بنایا جائے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک platform ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو کسی اچھے طریقے سے اس کا platform بنا کر youth کو وہاں utilize کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج اس پارلیمنٹ میں ہمیں کتنے خیالات اور solutions مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک vision مل رہا ہے، ہمیں ایک

platform provide کیا جا رہا ہے۔ اس لیے solution ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح Blue Party نے مشورہ دیا کہ MNAs and MPAs جو نوجوان آسکتے ہیں، انہیں آنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے الیکشن میں ووٹ دے کر ان میں حصہ لیا، اسی طرح ہماری young generation کو الیکشن میں MNAs and MPAs کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ وہ system کے اندر آکر وہاں ایک platform بنائیں۔ جب وہ platform بن جائے گا اور جیسے احمد بلال محبوب صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں youth کی 60% population ہے تو پاکستان وہ ملک کیوں نہیں بن رہا؟ اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اس platform کو ابھی تک utilize نہیں کیا۔ ہم youth تو ہیں لیکن جسے کہتے ہیں کہ نوجوان ایک رش بنے ہوئے ہیں، اسے utilize کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں utilize ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ایک example ہے، ایک solution ہے اسی طرح ہم اسے education sector میں utilize کر سکتے ہیں۔ ہم اسے politically utilize کر سکتے ہیں۔ This is the main solution کہ ہمارے لیے ایک ایسا platform ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا روزگار بھی بہتر ہو سکے، ہمارا vision بھی بہتر ہو سکے تو I think this is the main solution for this no confidence. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Mr. Ishfaq Ahmed Rustamani *sahib*.

Mr. Ishfaq Ahmed Rustamani: Thank you Madam Speaker. This goes without saying that without the involvement of the youth no nation can progress. Youth is the only solution through which any country can enter into the enlightened club of the improved nations.

ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ youth کو as a valuable asset consider کیا جاتا ہے، youth کو facilities دی جاتی ہیں لیکن ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ near about 50 years down the road since our independence ہم نے کبھی بھی youth کو as a valuable asset تسلیم نہیں کیا۔ پچاس سالوں سے ہم ابھی تک یہی چیز consider کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس valuable asset اور صرف ایٹم ہم ہے جو نہ سانس لے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ ہم ہر سال GDP کا major portion atomic weapons پر لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں security دیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جو valuable asset youth ہے اور اسی کے ذریعے ہی کوئی ملک آگے آسکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم ہر سال education sector میں GDP کا بہت کم حصہ لگاتے ہیں اور As a result اب youth کے لیے کوئی job نہیں ہے، وہ بے چارے پریشان ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کیسے کھائیں۔ ایک empty stomach جسے آپ نہ کھانا دے سکتے ہیں نہ تعلیم دے سکتے ہیں نہ روزگار دے سکتے ہیں، آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کو آگے لائے گا۔ آپ نے پچاس سالوں سے youth کو کیا دیا ہے؟ اب نوبت یہ آگئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھی terrorist attacks ہوتے ہیں، وہ بوڑھے نہیں کرتے بلکہ نوجوان کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر terrorist attack ہوا، وہ نوجوان تھا جس کی عمر بیس سال تھی اور اس نے terrorist attack کیا۔ ہم causes پر کبھی بھی نہیں جاتے، جو چیز جس جگہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہوئی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ youth جو valuable asset ہے، جس کی 60% population ہے، آپ اس کی progress کے لیے کچھ نہیں کرتے، آپ اس کی enhancement کے لیے کوئی project نہیں لاتے، آپ اس کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرتے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل

نوجوانوں پر depend کرنا ہے۔ ایک empty stomach سے آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کو آگے لائے گا؟ آپ ساٹھ سالوں سے جس کو اپنا asset سمجھتے ہیں، آپ جس ایٹم بم پر اپنا GDP خرچ کرتے ہیں، آپ اس سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے ملک کو آگے لائے۔ آپ لوگوں نے youth کو کیا دیا ہے؟ میں آپ کو اپنے صوبے سندھ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں education sector کی یہ حالت ہے کہ more than 2000 schools are closed جہاں نہ کوئی staff ہے، جہاں کوئی facility نہیں ہے، وہ سکول بند پڑے ہیں اور وہاں کے ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی نوجوان آگے نہیں آسکتا، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا بلکہ صرف ایک ہی ڈکیتی کا کام کرتا ہے، پستول ہاتھ میں لے کر چوری کرتا ہے، اسی لیے آج پورے سندھ میں law and order situation worst ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ باقی منصوبے پر اربوں روپے رکھتے ہیں، اپنے personal interest کے لیے اربوں روپے رکھتے ہیں، foreign visits پر جاتے ہیں تو بوڑھے لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے think tanks ہیں جو سانس تک نہیں لے سکتے، جو اپنی زندگی کی آخری stage پر ہوتے ہیں۔ آپ ان کی جگہ youth کو لے کر جائیں، آپ نوجوانوں کی تعلیم کی سہولیات بہتر بنائیں۔ آپ نوجوانوں کو صحت کی اچھی سہولیات تو دیں۔ ہمارے ملک میں 70% population rural areas میں رہتی ہے اور آپ ان کی حالت جا کر دیکھیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ youth یہ کرے، وہ کرے، I think you all belong to the elite class. 70% population rural areas میں ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں تو سہی، وہاں جا کر سکولوں کی حالت تو دیکھیں، ان بے چارے لوگوں کی health condition تو دیکھیں، ان بے چاروں کی employment condition تو دیکھیں، کوئی سمنے والا نہیں ہے اور امید کرتے ہیں کہ youth ہمارے ملک کو ایسے کرے گی، وہ ہمیں enlightened club میں لے کر جائے گی، وہ ہمارے لیے ترقی کرے گی، بھاڑ میں youth ترقی کرے گی۔ ان بے چارے نوجوانوں کے لیے کھانے کے پیسے تک نہیں ہیں، وہ بے چارہ گھر سے لائبریری تک جانا چاہتا لیکن اس کے پاس کرایے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ آگے پڑھائی نہیں کر سکتا اور آپ کہتے ہیں کہ youth is the valuable asset. آپ ساٹھ سالوں سے جس چیز کو valuable asset مانا ہے، kindly آپ اس سے expectations رکھیں۔ آپ لوگوں نے youth کو کیا دیا ہے۔

میڈم سپیکر! کہتے ہیں کہ cool mind is the best to have the best result لیکن alienation کی وجہ سے، poverty کی وجہ سے، unemployment کی وجہ سے youth اتنے hyper ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہماری youth کی یہ condition ہے۔ آپ نے ہماری youth کو یہ صلہ دیا ہے اور آپ expect کرتے ہیں کہ youth آپ کے لیے یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ آپ پہلے انہیں کچھ facilities تو دیں پھر ان سے expectations رکھیں۔ میں اپنے صوبے سندھ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے صوبوں کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے ہمارے ملک میں 20 million کے قریب بچے اس وقت سکول نہیں جاتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے تو انہیں تعلیم کیسے دلا سکتے ہیں؟ یہ دو کروڑ بچے سکول نہیں جائیں گے تو you can understand کہ وہ کیا کریں گے؟ اس طرح وہ miscreant element پیدا ہو سکتے ہیں یا وہ معاشرے میں بگاڑ لا سکتے ہیں، ڈکیتی کر سکتے ہیں۔ انسان کی سب سے پہلی ترجیح اپنے پیٹ کے بارے میں ہوتی ہے۔ جب اس کا پیٹ خالی ہو گا تو آپ

اس سے ترقی کی کیا توقع کریں گے؟ وہ سب سے پہلے اپنے پیٹ کے لیے کچھ کرے گا۔ اگر حکومت youth کو کچھ نہیں دے گی، اپنے پیٹ کے لیے of course he will try any way. وہ ٹکیتی کرے گا، کسی کو مارے گا، بیسے چھینے گا کیونکہ آپ نے اسے تعلیم کی سہولت تو دی ہی نہیں، اسے صحت کی سہولیات نہیں دی گئیں تو ظاہر پھر ایسا ہی ہو گا۔ اب پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گرد آگئے ہیں۔ ان مدرسوں میں طلباء کیوں جاتے ہیں چونکہ وہاں system ہے کہ انہیں وہاں کھانا پینا اور تعلیم بالکل free ہوتی ہے۔ ظاہر جو کسی کو مفت کھانا بھی دے، رہائش بھی مفت میں دے تو اس کا حق ہے کہ وہ اسے جس طرح چاہے train کرے۔ اگر مجھے مدرسے میں کوئی کھانا پینا دے گا، رہائش دے گا پھر وہ جس طرح مجھے کہے گا of course میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ وہی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہاری family کو support کیا جب آپ میرے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میرے آپ پر اتنے احسانات ہیں، اب ایک کام کریں کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے وہ پریشان کر رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ میں تو کچھ نہیں سوچوں گا، اسے فوراً مار دوں گا کیونکہ وہ مجھے شروع سے کھلا رہا ہے، اس نے مجھے تعلیم دی، اس نے مجھے بچایا۔ اس لیے اگر حکومت کسی کو تعلیم نہیں دے سکتی تو وہ youth سے expect بھی نہ کرے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ حکومت نے پچھلے ساٹھ سالوں میں نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ہر سال بجٹ میں کہا جاتا ہے کہ ایٹم بم ہمارا valuable asset ہے، اس کے لیے بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے، ہمیں خطرہ ہے۔ آپ human resource youth کو دیکھیں، اس کی تعلیم کو دیکھیں، اس کے لیے کچھ سوچیں، یہ چیزیں ہیں نہیں اور راب پریشان ہو رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہماری نوجوان نسل بھی آگئی ہے۔ یہ تو شروع سے ہے، یہ مسائل ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کے crime rate میں اضافہ، terrorist attacks میں اضافہ، ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے۔ this goes from very beginning ساتھ سالوں سے یہ process gradually develop ہوا ہے اور یہ ایک دن میں ٹھیک بھی نہیں ہو گا۔ میں حکومت اور آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ kindly to help your Youth. Youth پر accidentally نظر پڑتی کہ اچھا یہ بھی ہیں۔ بیس تیس سال بعد حکمرانوں کو یاد آتا ہے کہ اچھا ہمارے ملک میں نوجوان بھی ہیں، چلیں انہیں کوئی project دے دیں۔ انہیں project دے کر بھول جاتے ہیں۔ حکومت سے میری یہی درخواست ہو گی کہ youth کے لیے practically کوئی چیز لائیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے لیے scholarships لائیں، ان کی صحت کے لیے کچھ کریں، ہم empty stomach کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. The House is adjourned for twenty minutes.

(The House was then adjourned for twenty minutes)

(The House was reassembled after break with Madam Deputy Speaker (Ms. Aseela Shamim Haq) in the Chair.

Madam Deputy Speaker: Let's resume our discussion Mr. Faiz Ali sahib.

سید فائض علی: شکریہ، میڈم سپیکر! جیسا کہ اس report پر بات ہو رہی تھی کہ next generation goes

to the ballot کہ نوجوان نسل کا رجحان bullet کی بجائے ballot کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیں کبھی جمہوریت نظر آتی ہے، کبھی آمریت نظر آتی ہے، جمہوریت کی آنکھ مچولی سالہا سال چلتی رہی۔ اب کہا جاتا ہے کہ آمریت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میڈم سپیکر! جیسے ریحان نیاز نے کہا تھا کہ حکمران new generation کے لیے باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جب تک نوجوان پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے تب تک کچھ نہیں ہو گا۔ ہماری foreign policy, ہماری economy and terrorism کے مسائل بعد کے ہیں۔ جب تک نوجوان پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنی recommendations and solutions پیش نہیں کریں گے تب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ایم این اے بننا چاہیے، ایم پی اے بننا چاہیے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ یہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارا electoral process انہیں یہ permission دے سکتا ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو گا جب تک یہ system رہے گا۔ یہ system اتنا مہنگا ہے کہ نوجوان کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس وسائل ہونے چاہییں، آپ کے پاس bank balance ہونا چاہیے، علاقے کے جاگیردار اور وڈیرے آپ کی گرفت میں ہونے چاہییں۔ آپ کے پاس presiding officers ہونے چاہییں، علاقے کے SHOs آپ کے نیچے ہونے چاہییں تب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں otherwise اس ملک میں الیکشن لڑنا نوجوانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔

میڈم سپیکر! میں نے ایک report present کرنی تھی، وہ Orders of the Day پر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اس میں ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو پارلیمنٹ میں کیسے لایا جائے؟ نوجوان پارلیمنٹ میں کیسے آسکتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے proportion representation system کا ایک system propose کیا تھا، میں اس کی further detail میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ constituency politics چلتی ہے، جاگیرداریت چلتی ہے، یہ سارا feudal system ہے۔ پاکستان کا political system جاگیرداروں کے قبضے میں ہے۔ کوئی پڑھا لکھا شخص جسے روزگار نہیں مل رہا، جسے تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ وہ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا پیٹ بھرے گا یا عوام کی خدمت کرے گا؟ ایک ایم این اے جو دس دس کروڑ روپے خرچ کر کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، وہ پہلے اپنے دس کروڑ پورے کرے گا یا عوام کی خدمت کرے گا؟ اسے اپنے اگلے الیکشن کے لیے دس پندرہ کروڑ روپیہ اکھٹا بھی کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں گزشتہ الیکشنوں کے مقابلے میں اس مرتبہ voters turn out 55% رہا، کچھ جگہوں پر 54% بھی رہا تو 54 or 55% voters turn out کافی نہیں ہے، ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا، وہ کیوں نہیں بڑھ رہا کیونکہ عوام اس نظام پر اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ انڈیا کو دیکھیں کہ جب سے وہ آزاد ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کا voters turn out 50% سے نیچے نہیں آیا اور پاکستان میں 2008 کے الیکشن دیکھ لیں جس میں 44% turn out رہا۔ اس out کو ہمیں بڑھانا ہو گا۔ اس process پر عوام کا اعتماد کیسے بحال ہو گا؟ وہ ایسے ہو گا کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل نہیں ہوتیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن میں جیتنے والی پارٹی نے عوام کے popular votes سے 32.7% حاصل کیے۔ ایک حکومت جس کے پاس policy making, decision making کے تمام اختیارات ہیں، وہ عوام کے صرف 32% voters کی نمائندگی کر رہی

ہے اور 68% عوام جنہوں نے اس حکومت کے خلاف ووٹ دیے، جنہوں نے اس حکومت کو reject کر دیا، ان کی نمائندگی نہیں ہوئی اور 32% والوں کی نمائندگی ہو گئی، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی؟ عوام جس پارٹی کو reject کرتے ہیں وہی برسر اقتدار آگئی ہے۔ 1970 کے الیکشن کو دیکھیں کہ پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹیوں نے 37% votes حاصل کیے تھے لیکن آپ ان کی سیٹیں دیکھیں کہ ایک پارٹی کو 44 seats ملیں اور دوسری پارٹی کو 104 seats ملیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ پاکستان کے عوام دونوں پارٹیوں کے لیے اپنا mandate show کر رہیں ہیں لیکن آپ ان کی سیٹوں کی تعداد دیکھ لیں۔ اس لیے ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہو گا، جب تک عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے تب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ صرف باتیں ہوں گی کہ Youth Parliament یہاں پہنچ گئی، Youth Parliament وہاں پہنچ گئی، یہ Youth Parliament ہی رہے گی، اس ملک کے نوجوان کبھی اصلی پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے۔ ہم اس ملک کے نوجوانوں کو Youth Parliament کے بجائے National Parliament میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اس system کو reject کرنا ہو گا، constituency politics کو توڑنا ہو گا، جب تک ہم اس ملک سے اس system کو، اس اشرافیہ کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی، نوجوان کبھی بھی اس ملک میں decision making میں participate نہیں کر سکیں گے۔ ہماری recommendations یہیں تک رہ جائیں گی۔ ہم ڈگری حاصل کر تے ہیں تو ہمیں نوکری کی پڑ جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی نوکریاں ہی کرتے رہیں گے، ہم کبھی بھی اصلی پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے۔

میڈم سپیکر! پاکستان میں جب local bodies کو مشرف کے دور میں بحال کیا گیا تو اس میں 33% women representation تھی۔ وہ اس لیے رکھی گئی کہ کچھ علاقوں میں عورتیں الیکشن نہیں لڑ سکتیں، ان میں اتنی capability نہیں ہوتی کہ وہ الیکشن کے لیے مہم چلا سکیں۔ ہم اس platform سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر local bodies کو بحال کیا جائے تو ان میں نوجوانوں کے لیے بھی 33% quota ہونا چاہیے تاکہ نوجوان نچلے طبقے سے train ہو کر اوپر آئیں۔ ہمیں نیچے والی سیاست کو بھی دیکھنا ہو گا جس طرح الیکشن کمیشن نے انتخابی اخراجات پر ایک حد مقرر کی ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے پندرہ لاکھ روپے اور صوبائی اسمبلی کے لیے دس لاکھ روپے تک خرچ کیے جاسکتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ الیکشن میں دیکھا کہ کوئی بھی آدمی جو ایم این اے بنا اس نے پندرہ لاکھ سے کئی زیادہ اخراجات کیے۔ یہاں تو پندرہ لاکھ کیا پندرہ کروڑ خرچ ہوتے ہیں اور ایک نوجوان پندرہ کروڑ روپے نہیں خرچ کر سکتا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ میں یہاں سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ میں آنے والے الیکشن میں اپنی ذاتی کمائی سے الیکشن لڑوں گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں آج ہی resign کر دوں گا۔ ہم جب تک اس system کو تبدیل نہیں کریں گے دیکھیں یہ system کی خرابیاں ہیں، ہماری خرابیاں نہیں ہیں۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم آپ اپنی بات کو تھوڑا مختصر کر لیں۔

سید فائض علی: میڈم سپیکر! عورتوں کے لیے ساٹھ سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ خواتین کو ان سیٹوں پر کس طرح لایا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی relatives women ہی پارلیمنٹ میں آئیں۔ ہم

چاہتے ہیں کہ اگر یہ system change نہیں بھی کرنا تو کم از کم نوجوانوں کے لیے reserve seats رکھ دیں۔ ہم نوجوان یہی پر محدود رہیں گے، بعد میں ہم اپنی practical life میں چلے جائیں گے، ہماری سیاست صرف یہیں تک رہے گی، ہم کبھی بھی national level پر سیاست نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں میں passion بہت ہے، ان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نوجوان مایوس ہیں، ان میں کچھ لوگ ضرور مایوس ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ یا کسی ایسے platform پر بیٹھ کر ان کے decisions, solutions and recommendations حکومت تک پہنچیں، ان پر implementation ہو لیکن یہاں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک جاگیردار اور اشرافیہ کا طبقہ اوپر رہے گا اور پارلیمنٹ کے تمام معاملات سنبھالے رکھے گا۔ نوجوان capable ہیں، ہمیں نوجوانوں کے اندر awareness کے لیے ایک campaign شروع کرنی چاہیے کہ ہم اس system کو reject کرتے ہیں اور ایک نئے system کی طرف جائیں۔ شکر یہ۔

Mr. Ishfaq Ahmed Rustamani: Madam Speaker! Point of Order.

Another honourable Member: Madam Speaker! Last Session

میں بھی بات ہوئی تھی کہ آپ point of order صرف اس جگہ raise کر سکتے ہیں جہاں rules and procedure کی violation ہو رہی ہو۔ اس لیے according to the rules یہ point of order exist ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ان سے درخواست ہے کہ یہ ان کی تقریر کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔

Madam Deputy Speaker: I am assuming that he knows that. Please continue.

جناب اشفاق احمد رستماني: میڈم سپیکر! انہوں نے کہا تھا کہ آپ پندرہ کروڑ کہاں سے لائیں گے، اس لیے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، صرف جاگیردار اور سرمایہ کار ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پیسا ہوتا ہے، جاگیرداری ہوتی ہے، وہ وہاں سے پیسا نکالتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ پندرہ کروڑ روپے حکومت سے نکالے گا۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم اسد اللہ چھٹہ صاحب۔

جناب اسد اللہ چھٹہ: شکر یہ، میڈم سپیکر! میں سب سے پہلے آج کے topic پر بات کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میرے ایک معزز ساتھی رکن نے کچھ concerns show کیے تھے اور ہلکے پھلکے انداز میں صوبائیت پر بھی بات کی تھی، میں اس کا rebuttal بھی دینا چاہوں گا۔ میڈم سپیکر! ہم youth کی بات کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ youth کون سی ہے؟ ہم اکثر ignore کر دیتے ہیں کہ صرف ہم ہی youth کا حصہ نہیں ہیں، youth کا part وہ غریب بچہ بھی ہے جس کے باپ کی تنخواہ آٹھ ہزار ہے جو حکومت اسے دیتی ہے اور اسی میں اس نے اپنے تین چار بچوں کی پرورش کرنی ہے، انہیں تعلیم دینی ہے اور انہیں system کا حصہ بنانا ہے۔ ہم یہ چیز اکثر ignore کر دیتے ہیں کہ اس ملک نے سوائے بھٹو صاحب کے دور حکومت کے پچھلے پینسٹھ سالوں میں غریب کے بچے کے لیے کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ اس میں ہمارے جاگیردار، بیوروکریٹس اور آرمی والے totally involved ہیں۔ Even اس ایوان میں ابھی اپوزیشن کی طرف سے ایک ممبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جاگیردار یہ ہے، جاگیردار وہ ہے۔ ان کو یہ چیز realize کرنی چاہیے کہ اگر یہ state develop نہیں کر پا رہا تو اس کے پیچھے جاگیردار ہیں، ہمارے نئے industrialists، civil and military bureaucracy یہ ساری کی ساری اس میں involved ہے۔

میڈم سپیکر! مجھ سے پہلے رستمی صاحب نے بات کی۔ میں ان کے ساتھ totally agree کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ youth میں جو ایک economic division ہے، اسے سب سے پہلے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ ساری کی ساری youth کو کم از کم equal educational opportunities دیں سکیں۔ جب تک تعلیم کے شعبے میں equal opportunities نہیں ہوں گی تو وہ کیسے flourish کریں گے؟ صرف Government College, LUMS, UCL or UET والے ہی youth ہیں؟ کیا وہ youth نہیں ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے لیے کبھی کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ کیا وہ youth نہیں ہے جو بلوچستان میں بیٹھی ہے؟ کیا وہی youth ہے جو scholarship پر آتی ہے؟ ہم youth کو کیوں ignore کر رہے ہیں؟ یہاں جو بھی بات کرتا ہے وہ 2% youth portion کی بات کرتا ہے باقی 58% youth کو سارے لوگ ignore کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، وزیراعظم صاحب بھی ابھی نئے منتخب ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ youth کے لیے بھی کوئی نہ کوئی step لیں اور خاص کر اس youth کے لیے لیں جو غریب ہے۔ میں نے ادھر بھی دیکھا ہے کہ یہاں اس level کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی تعلیم کے لیے کوئی بات کریں یا مستقبل میں انہیں اپنے طور پر تعلیم کی protection دے دیں جو سب کا fundamental right بھی ہے۔

میڈم سپیکر! اب میں rebottle کی طرف آؤں گا۔ جناب رفیع اللہ کاکڑ صاحب پڑھے لکھے parliamentarian ہیں، انہوں نے about the Cabinet and other things کچھ باتیں کیں تو اس کے لیے میں انہیں specifically یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کابینہ کو دیکھ لیں، اگر آپ کو کسی بھی وزیر پر کوئی concern ہے، آپ issue raise کریں اور خدا کا واسطہ ہے کہ صوبائیت کی بات نہ کریں۔ اس پارلیمنٹ میں اگر کسی نے صوبائیت کے کارڈ کو play کیا ہے تو وہ آپ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صوبائیت کی بات کی۔ ہم نے جب یہ وزارتیں decide کیں تو ہمارے ساتھ سندھی بھی بیٹھے تھے، پٹھان بھی بیٹھے تھے، پنجابی بھی بیٹھے تھے۔ آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور اب پاکستانیت پر آجائیں، اب بہت ہو چکا۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب ان جیسا پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: برائے مہربانی آپ personal نہ ہوں۔

جناب اسد اللہ چٹھہ: میڈم سپیکر! یہ personal بات نہیں ہے، شاید آپ اسے personal لے رہی ہیں، it's about Pakistan not about Rafiullah and me. میری ان سے درخواست ہو گی کہ وہ اس چیز کو دماغ میں رکھیں۔

Madam Deputy Speaker: Please be careful about your language.

جناب اسد اللہ چٹھہ: جی ٹھیک ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک Constitutional Reform Committee بنائی تھی، ان دونوں کمیٹیوں کے heads بلوچستان سے لیے گئے۔ Unfortunately رات کو پتا چلا کہ ان کمیٹیوں کے چیئرمینوں نے resign کر دیا ہے۔ کیا وہ اس ایوان میں صرف اور صرف وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھے؟ کیا انہیں Prime Ministership چاہیے اور اگر وہ reject ہو گئی ہے تو ہم لوگ کام ہی نہیں کریں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت ہے تو برائے مہربانی اسے اپنے علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے، اس youth کے لیے utilize

کریں، وہ ان کمیٹیوں کی chairmanships واپس لیں، ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کام کریں۔ ہماری یہ priority ہے کہ Balochistan issue حل ہو۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہ ہو؟ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم رفیع اللہ صاحب۔ Are you going to talk about the discussion at hand or anything else?

جناب رفیع اللہ کاکڑ: میڈم سپیکر! Chairmanship سے resign کرنے کا جواب دینا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری moral obligation ہوتی ہے کہ جب میں حکومت اور Blue Party میں confidence enjoy نہیں کرتا۔ مجھے یہ ذمہ داری حکومت نے سابقہ حکومت نے دی تھی اب نئی حکومت آگئی ہے اور یہ میری اخلاقی ذمہ داری تھی اس لیے میں نے اپنا resignation جمع کرا دیا ہے۔ جناب اسد اللہ چھٹہ صاحب نے الفاظ کا بے دریغ استعمال کیا ہے جن کا میں بالکل ذکر نہیں کروں گا۔ ہم اگر پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو یہاں the biggest dilemma of this country forever has been کہ یہ صوبائیت یا غداری کا card etherize the others کہتے ہیں to etherize the other communities. Since the inception of Pakistan میں 1971 میں ڈھاکہ کا incident ہوا، آج national integration کو جو خطرہ ہے، اس کی primary reason یہی سوچ ہے کہ جس نے بھی merit پر بات کی، آپ نے اسے صوبائیت یا غداری کا card دکھا کر خاموش کرانے کی کوشش کی ہے۔

میڈم سپیکر! 1948 میں جب بنگالی national languages of Bengal also one of the national languages of پاکستان، with due regard ہم نے انہیں by force using the top down approach suppress کرنے کی ایک artificial Pakistani identity impose کرنے کی کوشش کی، آپ اس طرح چیزیں impose نہیں کر سکتے۔ دنیا کی civilized nations have progressed by respecting diversity, developed countries میں سے ہے، وہاں سب سے زیادہ diversity ہے اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ American nationalism کی definition یہ ہے کہ 'the definition in the underlying characteristic of American nationalism is based on the celebration of diversity'۔ آپ نے 18th Amendment میں provincial autonomy کیوں دی؟ آپ نے NFC Award میں تینوں صوبوں کی باتیں کیوں مانیں؟ الحمد للہ اس trend میں قومی سطح پر بہت تبدیلی آچکی ہے، پرانے setup کے لوگ جو اس mindset سے سوچتے تھے کہ جس نے بھی آواز اٹھائی آپ نے اسے غداری کا کارڈ دے دیا۔ میں نے اسے 'Red Card Syndrome' کا نام دیا ہے۔ ہر آدمی کے پاس red card ہے، جو بھی اس کے سیاسی خیالات سے agree نہیں کرتا، جو اس کی مذہبی سوچ سے agree نہیں کرتا، وہ اسے red card دکھا دیتا ہے اور اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے یا پاکستانیت کی definition سے نکال دیتا ہے۔

میڈم سپیکر! میں چھٹہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے انہوں نے پہلے جو غلطیاں کیں اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے۔ مشرقی پاکستان کا واقعہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ آج بلوچستان کا مسئلہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ آج فاٹا کی جو grievances ہیں وہ اسی سوچ کے نتیجے میں ہیں، آج سندھ کی grievances اسی سوچ کا نتیجہ ہیں کہ جو بھی حق کی بات کرے، ہر آدمی کی جیب میں ایک red card ہے، بجائے یہ کہ وہ اسے accommodate کرے، اس کی genuine grievances پر بات کرے، اسے red card

دکھا کر اور ایک artificial Pakistani identity card play کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک کابینہ کے ممبران کی competency کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ I have no doubt as far as their competency is concerned, obviously وہ یہاں تک پہنچے، صرف کابینہ ہی نہیں اس ایوان کا ہر ممبر بڑا competent ہے، یہ بڑے rigorous process کے ذریعے آئے ہیں۔ میں نے تو competency پر کوئی سوال ہی نہیں کیا ہے۔ میری ایک general perception ہے، آپ اگر اسے accommodate کرنا چاہیں well and good اگر نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کی بڑی مہربانی لیکن اس card پر I strongly resist on it, اس نے پاکستان کو پہلے تباہ کیا، پہلے یہ ethnic minorities پر use ہو رہا تھا، آج کل یہ religious minorities پر استعمال ہو رہا ہے۔ چھٹے صاحب نے کچھ out of the Parliament جو intrigues and political bickering کی طرف بڑے Machiavellian style میں refer کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا تقدس اس بات کا متحمل نہیں کہ ہم اس طرح کی باتوں کو یہاں بات کریں۔ میڈم سپیکر! میں ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ 'اس حمام میں سب ننگے ہیں'۔ اس لیے چھٹے صاحب کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ شکر یہ۔

Madam Deputy Speaker: I think more appropriate place with this discussion to be held would be the party meeting, let's get back to the discussion at hand. Ms. Nabila Jaffar.

محترمہ نبیلہ جعفر: شکر یہ، میڈم سپیکر! ہمیں next generation کا topic دیا گیا تھا کہ next generation کیا role play کر سکتی ہے۔ میں یہاں کچھ ایسی solutions بتانا چاہوں گی، یہاں بہت سارے لوگوں نے problems بتائے۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر آپ youth کو voice دینا چاہتے ہیں، اگر youth اپنے لیے voice کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلے awareness and education سے زیادہ important ہے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہاں بہت سے ممبران نے کہا کہ یہاں illiteracy ہے، تعلیم نہیں ہے، I think Pakistan کا education rate 57% ہے۔ میں سب سے اہم چیز یہ highlight کرنا چاہوں گی کہ 57% لوگوں میں بھی 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو quality education حاصل کرتے ہیں۔ جب تک quality education نہیں ہو گی آپ کی intellectual capacity build نہیں ہوتی، آپ کے leadership skills develop نہیں ہوتے۔ آپ میں وہی immaturity رہتی ہے، آپ میں وہی intolerance رہتی ہے اور آپ peace making کے لیے کبھی بھی کام نہیں کر سکتے، آپ میں innovative thinking نہیں آسکتی، آپ لکیر کے فقیر ہی بنے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو follow کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ چیزیں یہاں applicable ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے curriculum میں، ہمارے economic subjects میں دیکھیں، ہمارے دوسرے subjects ہیں جن میں ہم بچپن سے theories پڑھتے رہتے ہیں لیکن آخر میں ان theories کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان پر apply نہیں ہو سکتیں۔ اگر ہمارے پاس ایسے curriculum نہیں ہیں جو ہم اپنی society کے لیے develop کر سکیں، جو یہاں ہمارے problems solve کر سکیں، ہم دوسرے لوگوں کو follow کر رہے ہیں، ہم باہر سے کتابیں میں لا کر لوگوں کو دو تین sections میں divide کر رہے ہیں، disparity in education system ہے تو اس چیز سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم جو education دے رہے ہیں وہ fruitful ہے، وہ effective ہے؟ لیکن وہ effective نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم جو نہیں دے رہے وہ تو ہمارا بہت بڑا flaw ہے۔ آپ اس region میں دیکھیں،

South Asia میں دیکھیں، تعلیم میں سری لنکا ہم سے بہت آگے ہو گیا ہے، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے جا رہا ہے، ہم سے انڈیا آگے جا رہا ہے۔ پاکستان ہی ہے جو religious conspiracies میں گرا ہوا ہے جو political conspiracies میں گرا ہوا ہے، اس ملک میں کرپشن کی جو آگ لگی ہوئی ہے اور آج کل تو insecurity نے سب کی امیدیں ہی ختم کی ہوئی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ in order to make youth raise voice for themselves and for the marginalized communities, it is important to enhance and build their intellectual capacity. یہاں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت کم لوگوں میں intellectual capacity دیکھتی ہوں، لوگوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ اگر آپ کے اندر foresightedness نہیں ہے، اگر آپ مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، آپ simply اپنے آپ کے لیے مستقبل نہیں دیکھ رہے تو آپ کسی اور کے لیے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟

میڈم سپیکر! یہاں بہت سارے لوگ اپنی communities کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنا future عجیب سا بنا رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو ایک platform پر opportunity ملتی ہے، آپ وہ avail کر رہے ہیں لیکن یہاں مجھے بہت ساری چیزوں میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو promote کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں آکر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور لوگوں کو promote کریں، ہم اور لوگوں کے لیے source of inspiration بنیں۔ میں یہاں اپنے آپ کو quote کرنا چاہوں گی، میرے لیے یہاں آنا اتنی آسان بات نہیں ہے، tribal society کو challenge کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں آکر میں اس لیے بیٹھی ہوں، میں آپ کی discussion سن رہی ہوں اور آپ سے learn کر رہی ہوں تاکہ میں وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے source of inspiration بنوں۔ وہاں کی خواتین یہاں آئیں، ان کی approach یہاں تک ہو۔ میں اپنا extra time نکال کر یہاں آتی ہوں۔

میڈم سپیکر! آج کل میں Balochistan Youth Form میں رہی ہوں اور لوگوں کے leadership skills develop کرنے کے لیے وہاں training کروا رہی ہوں۔ جو بھی چیز میری personal capacity میں ہے، میں وہ ہر چیز کر رہی ہوں۔ میں دوسری چیز کہنا چاہوں گی کہ democratic values, democracy اس وقت تک flourish نہیں کر سکتی جب تک ہمارے اندر individually democratic values نہ ہوں۔ ہم لوگ rule of law کو follow نہیں کرتے، ہم rule of justice کو تو جانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اسلام میں rule of law نہیں ہے اسلام میں rule of justice ہے۔ Laws کیونکہ انسان بناتے ہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ قوانین ایک society تک confine ہوتے ہیں، وہ ایک specific society کے لیے بنائے جاتے ہیں حالانکہ justice ایک ایسی چیز ہے جو ہر society پر apply ہوتی ہے۔ Justice ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان پر apply ہوتی ہے جس میں آپ کے صوبے، اضلاع، ethnicity, religious sects کو نہیں لا سکتے۔ Justice is for all concept ہمیں نہیں پتا، ہم rule of law کی بات کرتے ہیں اور اسے بھی follow نہیں کر رہے۔

میڈم سپیکر! میں تیسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہی democratic values ہیں جو ہمارے اندر tolerance create کرتی ہیں۔ ہم دوسرے آدمی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں counter کرے، ہمیں جواب دے اور وہ dispassionate انداز میں کرے۔ پختونوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پختون ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہمارے ساتھ dialogue نہیں کرتے، آپ نے جب پختونوں کو یہ چیز دی ہی نہیں، آپ نے وہاں تعلیم نہیں دی، آپ

نے وہاں development کے کام نہیں کیے، آپ نے ان کو آگے آنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا کیونکہ ہمیشہ deprive سمجھا جاتا ہے کہ majority is the authority. majority ٹھیک ہے کہ Pakhtuns are not in the majority وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہیں رہیں گے، ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ جب تک انہیں آگے نہیں لاتے، آواز اٹھانے کے لیے کوئی آدمی یہاں تک نہیں آسکتا، اس point کو note کیا جائے کہ ٹھیک ہے کہ ایک صوبہ majority میں ہے لیکن جو لوگ suffer کر رہے ہیں، فاٹا کی اس وقت 5 to 6 million community کے قریب ہے، آپ نے انہیں militants کی mercy پر چھوڑا ہوا ہے، militants ان کے ساتھ جو بھی کریں لیکن آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ لوگ ہمارے مسائل کے بارے میں نہیں جانتے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے قبائلی علاقوں کا سفر کیا ہوا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا ہو گا۔ سب لوگ میڈیا کو follow کرتے ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس قبائلی علاقے میں امن ہے، کس علاقے میں امن نہیں ہے، ہم کس tribal agency میں جا سکتے ہیں، وہاں ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں کے دماغوں میں جو یہ myths ہیں کہ وہاں کے لوگ wild ہیں، وہاں کے لوگ militants ہیں، وہ جاہل ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا، آپ لوگوں کے یہ سارے myths صرف اس طرح remove ہو سکتے ہیں کہ آپ وہاں کا visit کریں۔ آپ لوگ کبھی زندگی میں ایسا نہیں چاہیں گے، آپ Switzerland, Australia اور پوری دنیا کو explore کریں گے but you will never try to explore tribal areas. اگر آپ وہاں کبھی نہیں گئے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کی نظروں میں وہاں کی society کی importance ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں انہیں صرف criticize ہی کر سکتے ہیں، آپ یہاں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ dialogue کے لیے نہیں بیٹھتے۔

میڈم سپیکر! میں اگلی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ hope اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جس قوم کو زندہ لاش بنا دیا جائے پھر اس میں کبھی بھی creative thinking نہیں آسکتی، وہ کبھی بھی creatively نہیں سوچ سکتی۔ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اگر hope نہیں ہے تو وہ creatively نہیں سوچ سکتے تو آپ ان لوگوں سے کیا expect کریں گے جو ابھی اس forum تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ From 13 to 25 years of age آپ کی personality building ہوتی ہے، اگر آپ کی personality building ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جہاں روز دھماکے ہو رہے ہیں، جہاں بے روزگاری ہے، جہاں poverty ہے، جہاں political conspiracies and instability ہے وہاں میں میرے خیال میں creative thinking نہیں ہو سکتی، وہاں آپ youth کی nourishment نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں میں hope raise کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کرے۔

میڈم سپیکر! اس کے بعد تعلیم آتی ہے۔ میں نے تعلیم کے بارے میں بات کی کہ پاکستان میں ineffective education system ہے، یہاں جتنی بھی تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی effective نہیں ہے۔ ہمارے اندر immaturity ہے۔ جن لوگوں کو opportunities ملیں ہوئی ہیں اور جو اس ملک کے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں بھی sense of responsibility نہیں ہے۔ میں اس پر ہمیشہ سوچتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، وہ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے طور پر part play کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اس لیے میں سب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے طور پر کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اپنے طور

پر کسی کو educate کر سکتے ہیں تو کریں، اپنے طور پر کسی کا خوف ختم کر سکتے ہیں تو کریں۔ میں appreciate کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی پانچ آدمیوں کی بھی مدد کرے تو اس نے پانچ نسلوں کی مدد کی۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Let's conclude our discussion and for the last conclusive comments, I would like to call upon the honourable Leader of the Opposition.

Mr. Kashif Ali: Thank you very much. First of all I look forward from the government to reconcile these differences that have been raised today. Secondly, coming to this report

میرے خیال میں اس report کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت hope بھی نظر آرہی ہے۔ میں اس report کو یہاں بیٹھ کر skim کر رہا تھا کہ یہ بڑی optimistic report ہے۔ آپ پاکستان کو اس طرح دیکھیں کہ کتنی positivity ہے، we talk about the youth, this is 60% population of Pakistan، مگر اس سے بھی بڑی جو alarming بات یہ ہے کہ آپ اس کی key findings کو دیکھیں تو وہ کافی alarming ہیں۔ One of the key findings that I was skimming over here democratic system. اب یہ بڑی alarming indication ہے کہ youth کا democratic system پر trust ختم ہو رہا ہے۔ اتنا trust deficit gap بڑھتا جا رہا ہے کہ اب democracy میں بی نہیں رہا اور یہ پہلی indication نہیں ہے، کافی survey ہوئے ہیں، BBC نے survey کیے ہیں، Gallop نے کیے ہیں، اس میں بھی یہی results آئے تھے کہ a lot of people from Pakistan want an Islamic system, want a dictatorship and all that primarily reason یہی ہے اور یہ reason کیا ہے کہ dictatorship سے economic growth ہوئی، آپ کا GDP صحیح رہا، لوگ کہہ رہے تھے کہ نوکریاں مل رہی ہیں جبکہ جمہوریت نے یہ سب کچھ نہیں دیا۔

میٹم سپیکر! دوسری سب سے بڑی alarming situation یہ ہے کہ young women face very high level of exclusion. I am very thankful to my Chairman Standing Committee, I mean the Committees have been dissolved Ms. Momna جو آج women empowerment پر resolution لا رہی ہیں، کل انہوں نے youth women empowerment, women inclusion in the resolution لائی تھی۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ democratic process or the political process اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا اور اگر آپ اس کے 3 پر دیکھیں تو اس میں ایک بہت اچھی اور interesting quotation لکھی ہوئی ہے، I want to just read it. It is 'demography is not destiny, the demographic dividend does not come free, it needs to be earned'. اگر آپ اس demography and demographic کو with word youth replace کر دیں تو آپ کو اس سے یہ lesson ملے گا کہ اگر آپ اسے youth سے replace کریں کہ youth اس ملک کا asset تو ہے، this is understood، ٹھیک ہے and what is the next, the next is hopelessness آگئی ہے اور اس کی reasons کیا ہیں، unemployment ہے، وہ کہاں سے آرہی ہے۔ because of the our shortsighted or failure policies. ہم نے کبھی ایسی چیزوں میں invest نہیں کیا جو youth کو motivate and empower کرے This is a human capital, you invest in the education, health to empower the youth. کہ آپ نے بڑا interesting point raise کیا کہ کیا یہ youth united ہے؟ یہ united ہو نہ ہو کہ ہمیں form of

But at least I am government کیسا چاہیے؟ یہ اس پر united ہو نہ ہو کہ ہمیں کون سا political system چاہیے؟
 move forward کرنا چاہیے، پاکستان کو ایک progressive country ہونا چاہیے لیکن اس میں ہمیں کیا چاہیے اور
 جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں چاہئیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہر آدمی نے یہاں حکومت کو
 criticize کیا کہ وہ یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، especially in democracy the responsibility does not end with the voting, it starts from the voting. Once the voting ends your
 responsibility starts there and the responsibility in the democracy is that you have to be vigilant in a way
 آپ اپنے لیے بھی تو avenues ڈھونڈیں کہ کیا ہیں۔ اب کسی نے کہا کہ ہم تو کرپشن کر کے یہ کام کروا لیتے
 ہیں، بھائی آپ یہ کام نہ کریں، ایک طرف آپ حکومت کو criticize کر رہے ہیں دوسری طرف آپ وہی کام کر
 رہے ہیں تو essentially it is a very balance situation کہ جہاں تک youth کی بات ہے، اس میں ہر کوئی
 حکومت کو criticize کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی realize کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا بڑا individual role
 اور individual role یہی ہے کہ ہم ایک responsibility کو own کریں۔ ہم جب تک اس responsibility کو
 نہیں کریں گے، حکومت تو نہیں کر رہی، وہ تو discredited ہو گئی ہے، failed ہو گئی ہے۔

What is the next? Next is to own this responsibility and move forward find different avenues. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Honourable Prime Minister *sahib*.

رانا فیصل حیات: شکریہ، میڈم سپیکر! آج کافی اچھی discussion ہوئی، لوگوں نے اس پر اپنے
 concerns پیش کیے ہیں اور کچھ interesting points بھی آئے ہیں، Leader of the Opposition نے بھی
 کافی اچھے points نکالے ہیں۔ آپ نے بھی کافی important points کو highlight کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے
 discussion کے دوران باتیں کی ہیں Ms. Nabila اور سمجھدار باتیں کی ہیں، فائض صاحب کی باتیں بھی
 Jaffar، رستمی صاحب نے بہت اچھی اور سمجھدار باتیں کی ہیں، فائض صاحب کی باتیں بھی
 جانی چاہئیں کہ لوگ کس طرح پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں؟ اس کے علاوہ reserve seats پر کیا ہوتا ہے، لوگ جو
 opportunities miss کرتے ہیں، جن کے لیے ہوتی ہے ان کو ملتی نہیں ہے۔

میڈم سپیکر! دو تین چیزیں ہیں جن کو emphasize کرنا چاہوں گا۔ This is very alarming as the
 Leader of the Opposition said as well that losing hope in the democratic system, this is very alarming
 اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے اور جو لوگ نظام کو سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ
 جانتے ہیں کہ جمہوریت ہمیشہ slow progress کرتی ہے جمہوریت میں چونکہ سب لوگوں کو onboard لے کر
 فیصلے کیے جاتے ہیں، سب سے مشاورت کی جاتی ہے جبکہ دوسرے نظام میں فیصلے abruptly کیے جاتے
 ہیں، dictatorship، بادشاہت ہو یا دوسرے systems ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں
 جمہوریت کا تسلسل رہا، اس کا انہیں تھوڑا late لیکن fruitful result مل رہا ہے۔

میڈم سپیکر! اس report میں ایک اور point یہ ہے کہ Pakistan is transforming اور یہ جو change or
 shift آرہی ہے بے شک slow ہو لیکن ہم نے اسے رکنے نہیں دینا کیونکہ اگر اب تسلسل ٹوٹا تو حالات ہاتھوں
 سے نکل بھی سکتے ہیں۔ Youth کے حوالے سے بات کی گئی کہ situation critical ہے، economic problems

chunk of the population is from the youth لیکن اب اتنا بڑا concerns ہیں جو پہلے بھی موجود تھے needs to be addressed on an emergency basis. that the youth is united or سوچا آپ نے سوال پوچھا? To be very honest and frank on a lot of issues they are not united but the thing is not? کہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ Youth کسی اور بات پر united ہو نہ ہو اس بات پر ضرور united ہے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں؟ کیا issues ہیں جو address کرنے والے ہیں۔ وہ youth کی employment سے related ہوں، health سے related ہوں، education سے related ہوں اور جیسے رستمائی صاحب نے کہا کہ اب یہ چیز ہم پر ہے کہ ہم youth کو کتنا valuable asset بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ اگر اس بات پر youth united ہے کہ ہمارے مسائل یہ ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ پھر ہم unity کے ساتھ ان کے solutions نکالیں۔ I as being the Prime Minister of this Parliament میں اس معزز ایوان میں پہلا قدم اٹھانا چاہوں گا، I constitute a Special Committee on youth affairs، جس میں حکومت کی طرف سے ممبران شامل ہوں گے۔ and I request to the Leader of the Opposition to give names from his party as well. ایک platform پر آکر کام کریں گے، proposals بنائیں گے، وہ proposals نہیں جو پہلے آتی رہی ہیں۔ Proposals report for the youth in every field, education, health, economy and all other concerns اور اس میں ہم صرف report بنا کر present نہیں کریں گے، ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ صوبائی اور وفاقی محکموں کے وزراء صاحبان سے coordinate کریں اور we will try to convince them to bring them here when we present the report. So we can also take their words on how will they assist with us? How will they cooperate? Because to be very honest میں یا میرا کوئی بھائی یا بہن یہاں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب نے مل کر ایک قوم بن کر یہ مسئلے حل کرنے ہیں and when we say that Pakistan is in a very critical situation, the word itself is very alarming, that means we need unity right now.

میڈم سپیکر! کچھ باتیں میرے بھائی کاکڑ صاحب نے کیں، نبیلہ جعفر صاحبہ نے کیں، میں ان سے سو فیصد متفق ہوں، ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم red card syndrome use کر سکیں، ہم آپس میں اس طرح کی بات کریں۔ جس طرح نبیلہ جعفر صاحبہ نے تقریر کی، میں بڑے غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا اور چونکہ میں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کافی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک مرتبہ وہاں چکر لگے لیکن وہاں کے رہنے والوں کو جتنی سمجھ ہے اتنی ہمیں نہیں ہے۔ میڈیا وہاں نہیں پہنچتا، وہاں کی بھی youth ہے اور یہاں کی youth جنہیں کافی چیزوں پر access ہے، ان میں کافی لوگوں کو opportunities نہیں مل رہی لیکن کافی لوگوں کو opportunities مل رہی ہیں، آپ وہاں کی سوچیں جن کی خبریں ہمیں نہیں ملتیں، وہاں کی youth کیسے ضائع ہو رہی ہو گی؟ انہوں نے education related بھی کافی اچھی باتیں کیں، انہوں نے foresightedness and tolerance کی جو بات کی that is also very impressive we need that in our society اور اس کے لیے ہم انشاء اللہ ان کی خدمات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

میڈم سپیکر! محترمہ سطوت وقار صاحبہ نے youth کے بار میں ایک بات کی that needs to be considered، انہوں نے کہا کہ تعلیم سب ہی حاصل کر رہے ہیں، engineers بن رہے ہیں، doctors بن رہے ہیں،

psychologist بن رہے ہیں، political scientists بن رہے ہیں، vision نہیں لے رہے۔ میڈم سپیکر! اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ when we graduate and when we are making an important decision in our life، then we should think outside our body، باہر سوچنا چاہیے۔ اس معاشرے کے لیے سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اس قوم کے لیے سوچنا چاہیے اور اس youth کے لیے سوچنا چاہیے جو نسل در نسل ضائع ہو رہی ہے۔ میرے کسی معزز ساتھی نے کہا کہ literacy rate 57% ہے، اب وقت ہے کہ ہم نے اس level کو اوپر بھی لے کر جانا ہے اور level of education کو بھی improve کرنا ہے۔ To sum it up جو کمیٹی بن رہی ہے اس میں انشاء اللہ we will try to present the report on the very first day of the next Session with the coordination of the Provincial and Federal Ministers ہم اپوزیشن کو بھی اس میں ایک page پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس پر انشاء اللہ پوری discussion کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس میں جو بھی tangible change کرسکتے ہیں وہ کریں۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: That concludes our discussion. Let's move on the next item on our agenda. Mr. Amin Ismaili would like to move a resolution.

Mr. Imin Ismaili: I would like to move a resolution that;

“This House is of the opinion that Pakistan is facing severe energy crisis that has shattered our economy. The problem mainly consists of four major parts; first dishonest & incompetent management, second theft and inefficiencies, third delaying or non-implementation of major projects like gas & oil exploration especially large dams and fourth is the reliance on oil & misuse of gas resources through CNG. Today Pakistan is facing shortfall of electricity more than 5500MW. Ironically, our energy supply primarily comes from natural gas which is 45%, oil 35%, hydel 12%, coal 6% and nuclear 2%. The government has to strive hard to deal with energy crisis which currently needs to shift balance from oil to coal and hydel in next five years”.

میڈم سپیکر! آج پاکستانی معیشت زیوں حالی کا شکار ہے، investment نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے پانچ سالوں میں investment 70% کم ہو گئی ہے، export نہ ہونے کے برابر ہے، trade deficit بڑھتا جا رہا ہے۔ Load shedding and energy crisis کی وجہ سے فیکٹوریاں اور کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، unemployment بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی main reason energy crisis ہے۔ میں نے اپنی resolution میں mention کیا ہے کہ پاکستان میں power generation کے لیے 6% coal use کیا جاتا ہے جو کہ in the region and in the world lowest ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی کوئلے سے حاصل کی جاتی ہے جو سب سے cheapest source ہے اور اس کا 41% figure ہے۔ دنیا میں Hydel سے 6% بجلی حاصل کی جاتی ہے اور تیل سے 6% جبکہ ہمارے ہاں تیل جو بجلی پیدا کرنے کا سب سے مہنگا ذریعہ ہے اس سے سب سے زیادہ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

میڈم سپیکر! اگر ہم اپنے region India and China کی بات کریں تو انڈیا کوئلے سے 69% بجلی

پیدا کرتا ہے اور چین کوئلے سے 78% بجلی پیدا کرتا ہے اور ہماری نالائقی اور inefficiency کی وجہ سے ہم صرف 6% بجلی پیدا کرتے ہیں۔ میڈم سپیکر! Pakistan is the 5th largest country in the world for the coal reserves لیکن یہاں بجلی ناپید ہے۔ Madam Speaker, Pakistan is the 20th largest country of the world for gas reserves لیکن بجلی ناپید ہے۔ ہماری incompetence, inefficiency, corruption and commission کی وجہ سے پینسٹھ سالوں میں صرف تیرہ ڈیم بنائے گئے۔ جن سے ہم صرف 6515MW بجلی پیدا کرتے ہیں جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا میں اب تک اڑھائی ہزار ڈیم بنا چکا ہے۔

میڈم سپیکر! چین میں 25000 کے قریب ڈیم ہیں۔ ہماری installed capacity 16000 to 18000MW کے قریب ہے ہم جسے پورا نہیں کر سکتے۔ میڈم سپیکر! چین کا ایک ڈیم جسے Gorges Dam کہتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اس کی installed capacity 22500MW اور صرف وہ ایک ڈیم ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ میں نے resolution میں کچھ مسائل کا ذکر کیا، ان کے علاوہ کچھ technical issues ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پچھلے چند سالوں میں بڑھتا چلا گیا۔ سب سے پہلا اور main problem distribution and line losses کا ہے بجلی چور کا مسئلہ جس کی وجہ سے ہمیں سالانہ نوے ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ efficiency losses کا ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا کہ پاکستان میں تین thermal companies ہیں جو بجلی generate کرتی ہیں، ان کی installed capacity 2800MW ہے جبکہ ہماری inefficiency کی وجہ سے ہمیں وہاں سے صرف 1700MW بجلی ملتی ہے اور 1600MW کا inefficiency lose ہو رہا ہے۔

میڈم سپیکر! اسی طرح تیسرا major and technical issue جس پر نئی آنے والی مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے کافی حد تک قابو پانے کی کوشش کی ہے اور انشاء اللہ بہت جلد وہ اس پر قابو پا لے گی وہ circular debt ہے۔ 560 billion Circular debt کے قریب تھا جس کی 322 billion کی پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گیس کی supply جو power generation units کو ہونی چاہیے وہ CNG Stations and fertilizer sector کو ہوتی تھی۔ جتنی گیس CNG Stations and fertilizer units کو دی جاتی ہے، اگر وہی ہم power units کو دیں تو ہمیں 5000MW بجلی حاصل ہو اور 500MW shortfall کا رہ جائے۔

میڈم سپیکر! اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس short term, medium term and long term کئی طریقے ہیں، میں کچھ کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ ابھی نئی حکومت آئی ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، گرمیوں کے بھی دن ہیں تو اگر ہمیں جلد از جلد energy crisis پر قابو پانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے power plants fuel supply کو enable کرنا ہو گا، ہمیں جلد از جلد تیل کی ترسیل بڑھانی ہو گی، گیس کی supply بڑھانی ہو گی، CNG Stations کو supply کم کرنی ہو گی۔ حکومت پاکستان سب سے اہم short term step لے سکتی ہے جتنے بھی power generation units i.e., KESC, HESCO, LESCO, PESCO وغیرہ ہیں ان میں کرپشن انتہا درجے کی ہے۔ ہمیں اس کو روکنا ہو گا۔ اس محکماتی کرپشن کو روکنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے bureaucrats جو بیس بیس سالوں سے وہاں

بیٹھے ہیں، انہیں ہٹانا ہو گا۔ اگر ہم وہ کریشن روک لیں تو جتنے بھی power generation units جہاں سے ہمیں 15 to 20 billion rupees کا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم یہ circular debt میں ڈال سکتے ہیں یا اس سے fiscal deficit کم کر سکتے ہیں۔

میڈم سپیکر! حکومت کا اگلا جو short term step یہ ہوسکتا ہے کہ to recover the lose capacity اور جیسے میں نے thermal companies کی مثال دی، ہمارے پاس ایسے کئی units پڑے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل، inefficiency کی وجہ سے اور کریشن کی وجہ سے ان پر پیسے نہیں لگے، وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم انہیں ٹھیک کریں تو اس سے بھی بجلی پیدا کی جاسکتی ہے اور اس طرح 1000 to 1200MW بجلی system میں آسکتی ہے۔

میڈم سپیکر! اگلا معاملہ RPPs کو ختم کرنے کے متعلق ہے جس کے خالق راجہ صاحب تھے۔ اس کے علاوہ حکومت کو جو medium term steps لینے چاہیں وہ ہیں کہ pipeline میں جتنے بھی major projects ہیں ان کو مکمل کیا جائے، مثال کے طور پر پنجاب میں ایک بہت مشہور power project چیچوں کی ملیاں کے نام سے ہے جس کی capacity 500MW ہو سکتی ہے جو تقریباً 90% complete ہو چکا ہے لیکن پچھلی حکومت نے پنجاب کی صوبائی حکومت کو sovereign guarantee نہیں دی، اس لیے اس منصوبے پر لگنے والی مشینری کراچی میں سڑتی گلتی رہی اور حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اسی طرح دوسرا منصوبہ جو pipeline میں اور جو سال ڈیڑھ سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے وہ Guddu Power Project ہے جس سے ہمیں 400MW بجلی مہیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کئی اور مثالیں بھی موجود ہیں۔

میڈم سپیکر! اگر ہم long term policy کی طرف آئیں تو حکومت کو نئے projects launch کرنے چاہیں جس سے ہمیں تین سے چار سالوں کے اندر تین سے چار ہزار MW بجلی حاصل ہو سکے۔ ان میں Ther Coal Project اور دوسرا Kohala Dam Project ہے جس سے ہمیں 1100MW بجلی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ Tarbela Extension Project ہے جس سے تین سالوں میں 1500MW بجلی حاصل ہو سکتی ہے۔ میڈم سپیکر! سب سے بڑھ کر ہمیں کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے، جس طرح اسے politicize کیا ہوا ہے، یہ چیز ہمارے ملک کو نقصان دے رہی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو مدنظر رکھیں، ان پر سوچیں، حکومت ان پر seriously کام کر رہی ہے، ہمیں اس کی seriousness نظر آرہی ہے، وہ ان پر further steps لے اور آنے والے ہفتے کو ان کی جو energy policy announce کی جارہی ہے، اس میں یہ منصوبے اور اس سے بڑھ کر ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے steps بھی لیے جائیں گے تو انشاء اللہ پاکستان economic development کی طرف جائے گا، social development کی طرف جائے گا، industries and factories چلیں گی، export بڑھے گی، trade deficit کم ہو گا اور انشاء اللہ employment opportunities generate ہوں گی شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم معتمد خان صاحب۔

Mr. Motasim Billa Khan: Thank you Madam Speaker, It is true that energy crisis is the second biggest problem of Pakistan after terrorism but the government of Pakistan is just rely some sources of energy, they are not rely on some important sources such as solar and wind energy for the production of electricity. The ability of Pakistan is to produce electricity from solar and wind energy. If proper management is done the solar and wind energy can be used for the production of electricity if not for the whole state but at least for the adjoining areas. Thank you.

Madam Deputy Speaker: The House is adjourned till 2:30 p.m.

[The House was then adjourned till 2:30 p.m.]

[The House reassembled after lunch break at 2:35 pm with Madam Deputy Speaker

(Miss Aseela Haq) in the Chair]

Madam Deputy Speaker: We are going to resume our discussion on the resolution moved by honourable Ameen Ismaili *sahib*. Mr. Faizan Idrees *sahib*.

جناب محمد فیضان ادريس: شكريه ميڈم سپيڪر۔ وقفے سے پہلے امين اسماعيلي صاحب energy crisis پر ایک resolution لائے تھے۔ اس سلسلے میں، میں دو تین چیزیں factual grounds پر highlight کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے پاس ایک official list ہے جس کے مطابق IESCO کے وفاقی حکومت سے receivables تین ارب اکتیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے ہیں۔ اس میں 27 وفاقی ادارے شامل ہیں، چار Armed Forces کے ادارے اور دس پنجاب حکومت کے ادارے ہیں۔ ان میں سی ڈی اے، ڈیفنس، پاکستان سیکرٹریٹ، کابینہ ڈویژن، وفاقی وزارتیں، لوکل گورنمنٹس، پنجاب پولیس، آئی بی، آئی ایس آئی وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب اداروں کے head offices اسلام آباد میں واقع ہیں۔ کل ملا کر ان اداروں نے تین ارب اکتیس کروڑ روپے IESCO کے ادا کرنے ہیں۔ IESCO is one of the distribution companies in Pakistan. FESCO, LESCO, MEPCO etc. are the other distribution companies operating besides this. اگر آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو صرف حکومت کی طرف جو receivables ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اکثر بات ہوتی ہے circular debt کی، ہمارے چیف منسٹر بات کرتے ہیں کہ بجلی چوروں کو پکڑا جائے گا تو charity begins at home کے مصداق ان کو چاہیے کہ حکومتی اداروں کے payables کو سب سے پہلے ادا کیا جائے۔

میرے پاس ایک دوسری لسٹ ہے۔ اس میں اسلام آباد کے تیس feeders ایسے ہیں جو کہ load-shedding سے exempt ہیں۔ ان میں سے کچھ کو میں نے highlight کیا ہے، پاکستان سیکرٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، سعودی سفارت خانہ اور ان کی رہائش گاہیں ہیں، آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر، ایف آئی اے ہیڈکوارٹر، آئی بی کا ادارہ اور کچھ defense installations ہیں۔ میرا concern یہ ہے کہ جب باقی سارا ملک load-shedding کو برداشت اور face کر رہا ہے تو کس criterion کی base پر ان تیس installations پر load-shedding نہیں ہو رہی۔ لوگ اس وقت مجبور ہیں، پنجاب میں بچوں کے سالانہ امتحانات

چل رہے ہیں اور تین تین گھنٹے کا پیپر students بغیر بجلی اور پنکھوں کے بیٹھ کر دے رہے ہیں جبکہ یہاں ہمارے وزرا صاحبان یا سفارت خانے load-shedding سے exempt ہیں۔

اب میں recommendations کی طرف آؤں گا۔ اپوزیشن کی جانب سے ارکان نے بات کی alternate energy sources کے حوالے سے تو اس وقت پاکستان میں the wind corridor of Sindh is one of the best corridors in the world. پچھلے ماہ فوجی فرٹیلائزر (FFC) نے ٹھٹھہ میں first pilot project launch کیا۔ یہ پراجیکٹ 46 میگاواٹ کا ہے۔ FFC نے 12 ہزار ایکڑ پر wind turbines install کی ہیں اور انہیں national grid کے ساتھ connect کیا ہے۔ اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ alternate energy sources کی طرف جائے تو ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان میں ایسے corridors ہیں جنہیں ہم wind energy کے لیے utilize کرسکتے ہیں۔ ہمارے سامنے چین کی مثال ہے۔ چین کے پاس صرف wind energy کی 52 ہزار میگاواٹ کی installed capacity ہے۔

دوسرا option, solar کا ہے۔ Indian Punjab is one of the examples. بھارتی پنجاب میں حکومت نے اپنے canal system پر solar panels install کیے ہیں۔ نہروں کے ساتھ جو جو دیہات یا علاقے موجود ہیں، ان کو solar panels کے ذریعے بجلی provide کی جارہی ہے جبکہ یہ solar panels, national grid کے ساتھ connected نہیں ہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ solar energy produce کرتے ہیں اور دوسرا نہری نظام میں پانی کے زیاں یعنی water evaporation کو کافی حد تک cover کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پراجیکٹ میں انڈیا کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر initiative لیں۔

آخر میں اگر پالیسی والی side پر آئیں تو 2009 میں ایک پٹرولیم پالیسی آئی تھی جس میں کچھ suggestions تھیں۔ سیکرٹری صاحب نے foreign investors کے لیے کچھ incentives دیے تھے۔ وہ پالیسی approval کے لیے جب منسٹر صاحب کے پاس گئی تو اس وقت کے honourable Minister نے کہا کہ I will see کہ پاکستان کا پیسا foreign investors کیسے باہر لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اس میں کچھ changes کیں۔ اس کے بعد پچھلے چار سال سے کوئی foreign investor پاکستان میں آکر کسی bid میں شامل نہیں ہوسکا صرف اس وجہ سے کہ interest rate کم تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم joint ventures میں نہیں جائیں گے، international market میں نہیں جائیں، foreign investors کو ہم welcome نہیں کریں گے، تب تک ہم solely اپنے reserves کو utilize نہیں کرسکتے۔

پاکستان کے پاس 54 ٹریلین کیوبک فٹ کے Shale and Tight Gas کے reserves ہیں۔ یہ شیل گیس، قدرتی گیس سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس کی extraction کے لیے different techniques use کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اس طرح readily available نہیں ہوتی جس طرح natural gas available ہوتی ہے۔ اس کے لیے جب تک پاکستان، برٹش پٹرولیم یا دوسری کمپنیوں کے ساتھ joint ventures نہیں کرے گا، ممکن نہیں ہے کہ ان reserves کو utilize کیا جاسکے۔ میں کہوں گا کہ پالیسی investors friendly ہونی چاہیے۔ ہمیں foreign investors کو خاص طور پر Shale and Tight Gas کی طرف invite کرنا چاہیے۔ بہت شکر ہے۔

جناب رفیع اللہ کاکڑ: میڈم سپیکر! میرا ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ میں نے صرف ایک request کرنی ہے، speech نہیں کرنی۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: جی بولیں۔

جناب رفیع اللہ کاکڑ: آپ کے نوٹس میں صرف یہ بات لانا چاہتا تھا کہ اس معزز ایوان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح کی قرارداد امین اسماعیلی صاحب 26 اپریل کو دوسرے سیشن میں بھی exact اسی wording کے ساتھ approve کراچکے ہیں اور یہ pass ہوچکی ہے۔ "Today Pakistan is facing electricity shortfall of more than 5,500 Megawatts." یہ جملہ تبدیل کیا گیا ہے۔ میری suggestion ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر مزید بحث کریں، بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے پر ایک رپورٹ لے آئیں۔ یہ بات میں آپ کی information میں لانا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: جی محترم امین اسماعیلی صاحب۔

جناب امین اسماعیلی: میڈم سپیکر! ایک تو میں رفیع صاحب کو correct کرنا چاہوں گا۔ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوسکی، نہ اس پر کوئی debate ہوئی اور نہ یہ پاس کی گئی۔ اس لیے اس کا دوبارہ لانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کافی changes کی گئی ہیں۔ پہلے جو facts and figures تھے، وہ اس میں نہیں ہیں۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عمر نعیم صاحب۔

جناب عمر نعیم: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ اس قرارداد کے مجھے دو حصے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے relevant ہمارے problems کیا ہیں۔ فیضان صاحب نے بھی اس بارے میں briefly بتادیا ہے کہ ہمیں کن کن جگہوں پر start لینا چاہیے اور کن کن طریقوں سے ہم اس کو کم کرسکتے ہیں۔ مجھے اس قرارداد پر جو اعتراض ہے، وہ اس کے دوسرے حصے پر ہے۔ میں اس پر ایک amendment بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نے وہ amendment سیکرٹریٹ میں جمع کروادی ہے۔

چونکہ یہاں کوئلے کی بات کی گئی ہے تو پچھلے سیشن میں بھی اس معاملے پر کافی بحث ہوئی تھی۔ اس معاملے پر حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کمیٹی بھی بٹھائی گئی تھی، ایک scientist ہیں، میں ان کا نام یہاں mention نہیں کروں گا کیونکہ سبھی ان کے نام سے واقف ہیں، ان کو یہ task دیا گیا تھا کہ آپ کوئلے سے بجلی produce کریں لیکن انہوں نے اس کے بعد کوئی خاطرخواہ report submit نہیں کروائی۔ کئی حلقوں کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی کہ وہاں کا کوئلہ refined quality کا نہیں ہے جس سے ہم electricity produce کرسکیں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی amendment سیکرٹریٹ میں جمع کروادی ہے اور میرے خیال میں ایوان میں بھی آچکی ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئلے کے ساتھ اگر ہم اس میں solar بھی شامل کر لیں تو مناسب ہوگا۔ شمسی توانائی کا system بھی install کیا جائے۔ ابھی recently حکومت پاکستان نے چین کے through یہ منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے چینی حکومت سے کہا ہے کہ آپ یہاں آکر solar panel install کریں اور اس کی subsidy ختم کی جائے تاکہ ہم energy حاصل کرسکیں۔

آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں اور solar energy کی جو requirement ہے یعنی سورج کی روشنی، اس کے لیے ہمارے ہاں فضا زیادہ سازگار ہے۔ فیضان نے بھی یہ چیز mention کی کہ جس طرح evaporation ہورہی ہے، نہری نظام میں پانی کا زیاں بھی ہورہا ہے۔ بطور ایک civil engineer میں اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیموں یا reservoirs میں جو پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے evaporate ہوجاتا ہے اور اس طرح پانی کا کافی حصہ ضائع ہوجاتا ہے۔ انڈیا نے اپنے ہاں نہروں پر سولر پینل install کیے ہیں۔ اس سے انہیں دو فائدے حاصل ہوئے ہیں، ایک تو evaporation کا مسئلہ tackle ہورہا ہے اور دوسرا، ان solar panels کے لیے جو جگہ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ بھی tackle ہو رہا ہے اور land consumption نہیں ہورہی۔ نہروں کے اوپر ہی سولر پینل لگادیے گئے ہیں۔ میں اس قرارداد میں ایک amendment پیش کرنا چاہوں گا اور میری درخواست ہوگی کہ اسے منظور کیا جائے۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ انعم آصف صاحبہ۔

محترمہ انعم آصف: اس قرارداد میں چار issues identify کیے گئے ہیں جو energy crisis کے لیے responsible ہیں۔ اس بحران کو تھوڑا elaborate کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری طرف سے بھی کافی کوششیں کی گئی ہیں کہ اس crisis کو clearly explain کر دیا جائے۔ Is it actually a crisis that exists or it is a mismanagement that exists? ایک بات شروع میں بتائی گئی کہ ہماری مجموعی پیداواری صلاحیت 17 ہزار میگاواٹ ہے جبکہ actually یہ صلاحیت 20 سے 22 ہزار میگاواٹ ہے۔ اس وقت ہم 5 گیگاواٹ کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ I would like to focus more on the solution. یہاں سارا load کوئلے اور hydel power system پر shift کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ political will کا ہے۔ ٹیم نہیں بن رہے کیونکہ اس میں سیاسی مسئلے موجود ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کہیں بھی اس طرح کے مسائل موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ محض چند چیزوں کو ہی واحد اور کلی طور پر solution مان کر باقی چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر ٹیم بنانے کے معاملے پر مسائل درپیش ہیں تو اس پر focus نہ کریں۔ اگر وہ possible نہیں ہوتا یا لوگوں کی reservations ہیں تو پھر دوسرے solutions کی طرف جائیں۔

جس طرح ابھی عمر نعیم نے بات کی، کوئلے پر بھی کام ہوچکا ہے۔ سب سے اہم بات جو یہاں کے کوئلے میں ہے، وہ اس کا sulphur content اور اس کا BTU level ہے۔ آپ اس کوئلے کو مطلوبہ capacity پر استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اسے purify نہیں کر لیتے۔ Both of these solutions at this point are not viable. ان تمام چیزوں کو ہم نے last time take up کیا تھا۔ We all conducted complete session. اس میں تمام لوگوں کو invite کیا گیا اور energy policy پر کام ہورہا ہے۔ جن solutions کو ہم نے highlight کیا، وہ یہ تھے کہ اگر آپ کے پاس گیس ایک major resource کے طور پر موجود ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے CNG کی طرف convert کریں، آپ اپنے عوام کو دوسرے طریقے سے facilitate کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اسے اس sector کو provide کریں جہاں سے revenue generate ہو سکتا ہے۔ سی این جی کے بغیر بھی گاڑیاں چل رہی تھیں اور

ابھی بھی چل رہی ہیں۔ پٹرول کی اتنی shortage کے باوجود بھی چل رہی ہیں۔ اس لیے اس سیکٹر کو ختم کر کے، آپ کو medium طبقے کی industries کی طرف گیس convert کرنی پڑے گی۔

دوسری option یہ ہے کہ ہمارے ہاں major load, industries کا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک صنعت کی جتنی capacity ہوتی ہے یا جتنی گیس وہ استعمال کرتی ہے، آپ کا ایک شہر اتنی گیس استعمال کرتا ہے۔ آپ ایک شہر کو جس energy سے facilitate کرتے ہیں، اس سے صرف ایک industry چل سکتی ہے لیکن industries کے پاس اتنے resources ہوتے ہیں کہ وہ بجلی اپنے بل پر generate کر سکیں۔ پاکستان کی 80% major industries اپنے power plants رکھتی ہیں۔ بڑی universities جہاں ہم سب پڑھتے ہیں، ہر یونیورسٹی کا اپنا power plant موجود ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی investment نہیں جسے stakeholders نہیں کرواتے۔ یہاں جو دو solutions propose کیے گئے، میں اس میں امین صاحب کو تھوڑی سی amendment suggest کرنا چاہوں گی۔ ہر industry air استعمال کرتی ہے، air major resource کے طور پر ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اسے normally آپ کرتے کچھ نہیں بلکہ اسے صرف cooling medium کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ اسے eject کرتے ہیں تو اسے quenched air کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ wind power plants کے لیے آپ کو صرف صحرائی علاقوں کی طرف جانا ہے یا ان علاقوں کی طرف جانا ہے جہاں آبادی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ wind turbine صرف وہیں لگ سکتیں بلکہ آپ کی local industry کی چھتوں پر بھی لگ سکتی ہیں۔ یہ سب سے important solution ہے اور اگر آپ نے ایک میگاواٹ generate کرنی ہے تو we have completely worked on this project یہ پراجیکٹ دس لاکھ روپے کا ہے۔ ایک simple capacity کے ذریعے آپ ایک میگاواٹ آرام سے generate کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس چیز پر work out کریں گے، وہ اور سستی ہو جائے گی۔ Ten lac is not a big amount to get that amount of the energy.

دوسری بات، یہاں کچھ علاقوں کو deprived علاقے کہا گیا ہے۔ میں کسی طور بھی ان علاقوں کو because they are culturally rich areas, they are resourcefully rich areas and deprived علاقے نہیں سمجھتی they are skill-wise rich areas. جن علاقوں میں ہم بطور tourists صرف سیر کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے پانی میں اتنی capacity ہے کہ اگر آپ وہاں صرف ایک turbine لگاتے ہیں تو اس سے وہاں کی complete community کو بجلی مہیا کر سکتے ہیں۔

سولر انرجی ایک viable solution ہے لیکن شاید وہ اتنا long term نہیں ہے۔ اس میں capacity نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے use نہیں کر سکتے جیسے دوسرے ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ تین وہ sources ہیں جن کے متعلق اس ایوان میں resolutions کے ذریعے کافی بحث ہو چکی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات نہیں ہوتی لیکن وہ اس energy crisis کا بہترین solution ہیں۔ انشاء اللہ، ہم اس ایوان میں ایک energy policy present کریں گے۔ تمام لوگوں سے discuss کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس پر لوگوں کی کیا رائے ہے اور کس طریقے سے اس معاملے میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ مومنہ نعیم صاحبہ۔

محترمہ مومنہ نعیم: شکریہ میڈم سپیکر۔ انعم نے wind and solar energy سے متعلق کافی ساری باتیں بتادی ہیں، میں چند points highlight کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات، ہمارا بجٹ present ہوچکا ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ کس industry کو یا کس area کو کتنی amount ملے گی۔ اب امین صاحب اس resolutions کے against یا حق میں جو کچھ بھی لے کر آئیں گے یا جو پالیسی بنائیں گے، جو اس شعبے کو cater کرے گی تو اس میں ان کو ضرور یہ highlight کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ investment کہاں سے آئے گی۔ کس area کا بجٹ وہ کم کریں گے اور energy کے لیے زیادہ کریں گے؟

میرا دوسرا point یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے واپڈا کے واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ جب تک وہ ادا نہیں ہوں گے تو واپڈا ہمیں کیسے بجلی مہیا کرسکے گا۔ یہ ایک بہت اہم point ہے جس پر حکومت کو سوچنا چاہیے۔ میں کل ایک news سن رہی تھی، اس میں بتایا جارہا تھا کہ گندم کی 50 لاکھ بوریاں اس وقت کھلے آسمان تلے پڑی ہیں، جیسے ہی بارش ہوگی تو وہ سب خراب ہوجائیں گی۔ صرف گندم ہی کیا، ہماری ہر industry کا یہی حال ہے۔ ہماری تمام industries کو جو own کرتے ہیں یا ان سے related ہمارے MNAs اور MPAs وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی اپنی responsibility نہیں لیتا۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے ہمیں ایک responsible cabinet چاہیے، ایک responsible حکومت چاہیے جو ان تمام معاملات کو cater کرسکے۔

سولر انرجی کے متعلق شاہانہ ایک resolution پیش کریں گی، میرے خیال میں اس میں یہ تمام چیزیں cater ہوجائیں گی۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم انعام اللہ مروت صاحب۔

Mr. Inamullah Marwat: Thank you Madam Speaker. First of all, I fully endorse this resolution which has been moved by Amin Ismaili. Reasons given in this resolution are quite valid but I would like to add one more point that there is a sort of incorporation of non-professionals in the energy sector. They do not know how we can reduce this energy crisis.

He has mentioned some figures that from natural gas, we are getting some 45% electricity; from oil we are getting some 35% and from hydel, some 12%. The whole world is relying on coal when it is not so much costly. This is indicative of the fact that we are not having proper professionals in this sector. Their policies are going somewhere in the wrong direction. They are just pushing us towards a side which is proving to be very expensive for all of us. So, my point is that professionals should be incorporated in the energy sector. This can help us reduction in the energy crisis.

One more thing, a point was made from the opposition side that we can introduce some sort of solar energy, we can go for solar energy or some wind energy. Well, if you live in an ideal world, that can be possible but realistically speaking, the economy that we are having, the sort of IMF loans that we are taking, we cannot go for such type of projects, I mean relying on wind or solar sources. So, my point is that if the whole world is relying, if the whole world has just proved that, coal is the best possible resource through which you can resolve your energy crisis, then why not in Pakistan? The main problem we are facing is that we are not having professionals in our energy sector. If we cater to this problem, this can be a solution to the energy crisis. Thank you.

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم ریان نیاز صاحب۔

جناب ریان نیاز خان: شکریہ ڈپٹی سپیکر۔ سب سے پہلے میں اس resolution کو endorse کرتا ہوں۔ انہوں نے بالکل ٹھیک باتیں کیں۔

جہاں تک کوئلے کا معاملہ ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ کوئلہ سے ہم energy produce کرسکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک یا دو میگاواٹ سے زیادہ کا plant نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں کوئلہ اچھے معیار کا نہیں ہے۔ یہاں کسی نے کہا کہ دنیا میں سب سے سستا ذریعہ کوئلہ ہے جس سے بجلی بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اگر ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہوسکتا ہے۔ میرے خیال میں اس resolution سے بہتر تھا کہ وہاں جا کر دعا کرواتے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کا کوئلہ آجائے جس سے ہم بجلی بنا سکیں۔ اگر ایک چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اس بات کو اس ایوان میں رگڑ رہے ہیں؟ اس سے صرف ایوان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔

انعم آصف نے یہاں ایک بات کی کہ solar energy long term solution نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ایک سولر پینل لیں، اس کے پیچھے دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس سولر پینل کی پانچ سال کی گارنٹی، پچیس سال کی وارنٹی اور چالیس سال کی life ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے ایک شخص سے زیادہ ایک سولر پینل کی life ہے۔ ہمیں اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ سولر انرجی کے شعبے میں چین بہت سا کام کرچکا ہے اور پاکستان میں بھی حطار میں ایک فیکٹری لگانے کا plan ہے جو کہ انشاء اللہ، اگلے ایک دو سالوں میں لگ جائے گی۔ I totally endorse the amendment. یہ بالکل ایسے ہی ہونی چاہیے۔ Hydel کے بارے میں تو سب کو علم ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان conflicts کا معاملہ بھی ہے لیکن energy crisis کو ختم کرنے کے لیے یہ تینوں solutions viable ہیں اور ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم فیضان ادریس صاحب۔

جناب محمد فیضان ادریس: شکریہ میڈم سپیکر۔ میں کچھ clarifications دینا چاہوں گا۔ انعم نے بات کی تھی independent power plants کی جو کہ مختلف یونیورسٹیاں اور باقی ادارے run کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ power plants نہیں ہیں بلکہ Gensets ہیں۔ پاور پلانٹس صرف آپ کی industries یا آپ کے industrial hubs میں استعمال ہو رہے ہیں، اس میں چناب انڈسٹریز اور دوسری کچھ انڈسٹریز شامل ہیں۔ وہ لوگ energy produce بھی کر رہے ہیں اور آپ کے national grid میں revert بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک universities یا باقی organizations کی بات ہے، ان کے پاس power plants نہیں بلکہ gensets ہیں۔ وہ تو ایک alternate source ہے، اس پر آپ rely کر ہی نہیں سکتے۔

دوسری بات اپوزیشن کی طرف سے یہ آئی تھی کہ بجٹ پاس ہوچکا ہے تو اس قرارداد کا مقصد کیا ہے یا آپ بجٹ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ Taking up a resolution or a policy has nothing to do with the federal budget that has been passed. ابھی تو ہم سفارشات propose کر رہے ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ بنے گی

جو وفاقی حکومت کے پاس جائے گی۔ اس کے بعد کابینہ کا prerogative ہے کہ وہ اسے accept کرے یا نہ کرے۔ اس معاملے کے ساتھ budget کو relate کرنے کا کوئی sense نہیں بنتا۔

یہاں کسی نے بات کی کہ ہمارے پاس گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں جو گیس کی production اور consumption ہے، اگر ہم نے اسے ابھی cut down نہ کیا تو 35 سالوں کے بعد ہمارے گیس resources نہیں ہوں گے۔ آپ تمام بھائی بہنیں انٹرنیٹ پر جاکر check کر لیں، یہ official statements ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے gas resources, within 35 years deplete ہو رہے ہیں۔ You don't have enough gas resources. کسی محترم رکن نے بات کی تھی کہ آپ سی این جی سے cut down کر کے fertilizer sector کو دے دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اسے utilize تو کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کو alternate resources کی ضرورت ہے۔ Until and unless you go for the alternate resources, you cannot rely on these things. I think that is more than enough. شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم فیضان ادیس صاحب! میرا آپ سے ایک سوال ہے۔

I do not have much knowledge about the energy sector but from whatever I have read, the quality of our coal is not incredibly inferior to the rest of the world.

جناب محمد فیضان ادیس: میں یہ point miss کر گیا تھا۔ لاہور میں جیل روڈ پر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف

انڈسٹریل ریسرچ کے نام سے ایک ادارہ ہے۔ پچھلے ہفتے میرے پاس ان کی ایک presentation آئی، I will share it with everyone of you. I am very hopeful that within few years, they are going to have a break-through energy production کے لیے efficiently use کر سکو۔ میرے پاس جو information یا facts ہیں، میں آپ کے ساتھ share کروں گا۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم اعجاز سرور صاحب۔

جناب محمد اعجاز سرور: میڈم سپیکر! توانائی کے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ governance failure ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس political will نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ ہمیں governance failure کو address کرنے کے لیے institutional level پر مختلف اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اٹھارہویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ energy produce کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ power and responsibilities کو مزید devolve کرے تاکہ اس سیکٹر میں جو governance کا issue بار بار سامنے آ رہا ہے، وہ تھوڑا حل ہو سکے۔

امین صاحب نے بات کی تھی کہ RPPs کو ختم کر دیا جائے۔ RPPs is the only short term solution. اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ کا shortfall مزید بڑھ جائے گا۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا توازن صرف اور صرف short term میں RPPs کے ذریعے ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ شمسی توانائی اور wind energy کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہوئی ہیں۔

پچھلی حکومت نے ایک انرجی کانفرنس منعقد کروائی تھی لیکن اس کی recommendations ایوان کے ساتھ ابھی تک share نہیں کی گئیں۔ میری درخواست ہے کہ اس کانفرنس کی recommendations ایوان کے ساتھ

share کی جائیں۔ نئی حکومت اس میں اپنی input ڈالے۔ جو نیشنل انرجی پالیسی بن رہی ہے، ہم بوٹہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اس نیشنل انرجی پالیسی میں اپنا بھی share ڈالیں اور اپنی voice حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت beneficial ہوگا۔ شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم شفقت علی صاحب۔

جناب شفقت علی: توانائی کے بحران سے متعلق اس قرارداد پر بہت ساری باتیں ہوئیں، کہا گیا کہ یہ یہ اقدامات ہوسکتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے سات آٹھ سالوں سے ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میں تو یہی سنتا آرہا ہوں اور پاکستان میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ ہوجائے گا، کر لیا جائے گا، ایسا ہوسکتا ہے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اسے کر کیوں نہیں سکتے۔

میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میرے چند points ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ریحان بھائی اور دوسرے ایک دو دوستوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئلہ source نہیں ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بلوچستان میں دنیا کا تیسرا بڑا اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ موجود ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کا تخمینہ 183 ملین ٹن ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئلہ نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے جو کوئلے سے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد چین آتا ہے۔ آخر ہم کوئلے سے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کیوں نہیں کرسکتے؟

اس بحران کے حل نہ ہونے کی بنیادی وجہ میرے نزدیک کرپشن ہے۔ اگر کرپشن ختم کردی جائے تو ہم زیادہ تر energy crisis پر قابو پاسکتے ہیں۔ بجلی کے شعبے میں اگر سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے تو اس میں اسٹاف ملا ہوا ہوتا ہے۔ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جاتے، حکومت ان اخراجات کو برداشت نہیں کرسکتی جس کے نتیجے میں بجلی provide کرنا ممکن نہیں ہوتی۔

جہاں تک گیس کی فراہمی کے مسئلے کا تعلق ہے، ہمیں ایران سے گیس لے لینی چاہیے۔ معاہدہ ہوچکا ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ حکومت ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن مکمل کرلی ہے تو ہماری جانب سے کیوں نہیں ہو رہی؟ معاہدہ میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ اگر پاکستان ایک مخصوص مدت میں یہ منصوبہ مکمل نہیں کرے گا تو اسے ایک بھاری رقم برجانے کے طور پر ایران کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم پائپ لائن مکمل نہیں کرتے تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔

ابھی حال ہی میں نیلم جہلم منصوبے کا دوبارہ افتتاح کرکے اس پر کام شروع کردیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا جاسکتا؟ پاکستان میں پچھلے چند سالوں کے دوران سیلاب آئے جس سے بہت تباہی ہوئی۔ اس صورت حال سے بچنے کے لیے نئے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کالا باغ ڈیم بناتے ہیں تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ سیلاب کے پانی کو store کرسکے۔ اس سے ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرسکتے ہیں اور بجلی بھی پیدا کرسکتے ہیں جس سے energy crisis میں کمی بھی آئے گی اور ملک میں ہونے والی تباہی سے بھی بچا جاسکے گا۔ اس ڈیم کی وجہ سے فی یونٹ cost بھی بہت کم ہوجائے گی، غالباً

ایک یا دو روپے ہوگی۔ ہم اس معاملے پر تو بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کر لیا جائے گا تو کرتے کیوں نہیں؟

اٹھارہویں ترمیم کے تحت اب صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے resources خود پیدا کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں میٹرو بس سسٹم کے لیے 70 ارب یا اس سے زیادہ خرچ کیے گئے۔ ہم نے صرف چند کلومیٹرز کے لیے 70 ارب خرچ کر دیے، پورے پنجاب کے لیے کیوں نہیں؟ وہ جو ادھر بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان میں لوگ بیٹھے ہیں، جن کے پاس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی نہیں، ان کو اس میٹرو بس سسٹم کا کیا فائدہ؟ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا project ضرور ہے لیکن ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ دوسرے معاملات پر توجہ پہلے دی جائے۔ ہمیں اب کچھ کرنا ہے، ہوگا، ہوگی سے کام نہیں چلے گا۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عمر اویس صاحب۔

جناب عمر اویس: شکریہ میڈم سپیکر! آپ نے مجھے time دیا۔ یہاں ہر ممبر نے electricity crisis کے بارے میں اپنی معلومات کے مطابق بات کی۔ اس وقت جو technologies, electricity produce کرنے کے لیے پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں، وہ ساری بھی ایوان کو بنادی گئی ہیں۔ فلاں جگہ evaporation کو control کرنے کے لیے یہ کیا جاسکتا ہے، میں نے فلاں presentation پڑھی ہے کہ جی coal set ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ ریحان بھائی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آرہی، again شفقت بھائی والی بات کہ ہم ہوگا، ہوگی کی گردانوں میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی priority نہیں بنا پارہے کہ کس technology کو ہم نے prioritize کرنا ہے اور اسے ہنگامی بنیادوں پر adopt کرنا ہے۔

جہاں تک independent power plants کے متعلق بات کی گئی کہ کچھ IPPs کچھ institutions میں junk sets ہیں تو لوگ آکر ہمارے ساتھ visit کر سکتے ہیں کہ وہ junk sets ہیں یا وہ اپنی پوری university کو national grid سے ہٹا چکے ہیں۔ وہ پوری university اب national grid سے energy use نہیں کر رہی بلکہ اپنی energy کے متعلق self sufficient ہے۔ وہ لوگ آکر visit کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم electricity generation سے متعلق جن technologies کو debate کر رہے ہیں، انہیں debate کرنے سے زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ ہم ان means اور ان suggestions کی طرف توجہ دیں جو اس crisis کی وجہ ہیں۔ میرے خیال میں management کی وجہ سے یہ crisis آرہا ہے۔ ہم solar system بنالیں، wind system پر کام کرنا شروع کر دیں، ہم چاہے کوئی سی بھی technology استعمال کرنا شروع کر دیں، جب تک ہم کرپشن اور mismanagement کے شیطان کو control نہیں کریں گے، یہ crisis solve نہیں ہوگا۔ The most important thing is the management crisis. اگر اس crisis کو control کیا جاسکے تو ہماری installed capacity تو ابھی بھی ملک کی energy کی کھپت کو support کرنے کے لیے کافی ہے۔

میڈم سپیکر! میں درخواست کروں گا کہ further debate کی بجائے، ہمیں ووٹنگ کی طرف جانا چاہیے

کیونکہ معاملات اب ذرا personal ہوتے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عبدالصمد صاحب۔

جناب عبدالصمد خان: میڈم سپیکر! کچھ points جو debate کے دوران discuss ہوئے، انہیں میں highlight کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو natural gas پر rely کرنے کی بات ہوئی۔ ابھی کونلے کی بات کی جارہی ہے کہ پاکستان کے پاس 183 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے لیکن وہی بات کہ inferior quality کا ہے اور at present not being able to be exploited. پاکستان میں 1950s میں جب قدرتی گیس کے reserves discover ہوئے تو اس وقت کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنی گیس موجود ہے کہ اسے دو تین سو سالوں تک استعمال کرسکتے ہیں اور پاکستان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اس کے haphazard use کی وجہ سے آج صورتحال مختلف ہے۔ جو بھی چیز energy related آتی ہے، کہا جاتا ہے بجلی produce کرنی ہے، اس کے لیے natural gas use کرو، اگر گاڑیاں چلانی ہیں، اس کے لیے natural gas use کرو، industries چلانے کے لیے natural gas use کرو۔ اسی طرح جب بجلی کا بحران آیا تو گھروں میں استعمال ہونے والے generators بھی natural gas پر ہی چلنا شروع ہوگئے۔ آپ natural gas پر اتنا rely کرگئے ہیں کہ اب یہ خطرہ پیدا ہوگیا ہے کہ اگلے تیس پینتیس سالوں میں گیس کے reserves ختم ہوجائیں گے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ میرے خیال میں mismanagement کی وجہ سے ہوئی۔ اگر آپ کونلے کی exploitation کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک plan بھی بنائیں کہ ہم اسے کس طرح exploit کریں۔ Exploitation کے معاملے پر research ہورہی ہے، انشاء اللہ، اگلے پانچ چھ سالوں میں اسے exploit کرلیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ ایک plan بھی سامنے لائیں۔

اتھارہویں ترمیم کی بات کی گئی کہ صوبہ اپنی بجلی خود بناسکتا ہے، ٹھیک ہے صوبہ اپنی بجلی خود بنا سکتا ہے لیکن اس نے یہ بجلی national grid میں دینی ہے اور پھر federal government کی مرضی ہے کہ وہ کس صوبے کو کتنی بجلی دیتا ہے۔ اس قانون میں ایک طرح کا flaw موجود ہے۔

اس کے بعد سب سے اہم issue management کا ہے۔ Line losses is another issue. پھر اس کے بعد آپ کے bills recover نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ political will شامل نہیں۔ اس ایوان میں فاٹا اور بلوچستان کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کہ وہاں کسی قسم کی facilities provide نہیں کی جاتیں۔ یہاں تھوڑی یہ بات بھی کی جانی چاہیے کہ وہاں کے لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور بجلی کے بل ادا کرنے کی ratio بھی انتہائی کم ہے۔ as compared to Punjab and Sindh. خیبر پختونخواہ میں بھی کم ہے، فاٹا میں تو بجلی کا bill دینے کا کوئی concept ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اپنے فرائض پورا کرنے کی بھی بات کریں۔ فاٹا سے میرا یہ گلہ بھی ہے۔

ایک اہم معاملہ rental power plants کا بھی ہے۔ تقریباً 2500 میگاواٹ بجلی rental power plants کے ذریعے پیدا کی جارہی ہے۔ What happened in the management was the problem. Some cases of mismanagement and corruption were identified. یہاں جو حکومت بیٹھی ہے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ وفاقی حکومت تو ابھی حال ہی میں بنی ہے، ابھی انہوں نے اپنی energy policy دینی ہے، یہاں یہ حکومت اپوزیشن والوں کو ساتھ لے کر اس طرح کی پالیسی بنائے کہ ہم نے تمام موجود resources کو صحیح طریقے سے use کیسے کرنا ہے۔ شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: جی محترمہ نبیلہ صاحبہ۔

محترمہ نبیلہ جعفر: میں محترم عبدالصمد صاحب کو correct کرنا چاہوں گی کہ فاٹا میں ایک تو بجلی equally distributed نہیں ہے یعنی سارے areas میں بجلی نہیں ہے۔ کچھ areas ایسے ہیں جو headquarter of the agency ہوتے ہیں، صرف وہاں بجلی provide کی جاتی ہے اور وہ بھی 200 volt نہیں ہوتی۔ اس کی voltage اتنی کم ہوتی ہے کہ light دیکھنے کے لیے آپ کو ماچس جلانا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ بجلی ہے بھی یا نہیں۔ آپ کبھی انہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں بجلی کی کیا حالت ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے generators رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے regulators رکھے ہوئے ہیں جن میں ایسی مشینری نصب ہوتی ہے جو اس بجلی کو بڑھا سکتی ہے لیکن اسے ہر کوئی afford نہیں کر سکتا۔ وہ ہر کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ فاٹا میں 2001-02 تک بجلی کے بل ادا کیے جاتے تھے۔ حکومت ہر گھر سے unit کے حساب سے تو charge نہیں کرتی تھی لیکن ایک مخصوص amount رکھی گئی تھی جو کہ ہر گھر والے اور ہر فیملی کو pay کرنا ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب اتنے crisis پیدا ہوئے تو بہت سے علاقوں میں بجلی disconnect کر دی گئی۔ جونہی war on terror شروع ہوئی تو اس کے بعد بجلی کے بل بھی بند ہو گئے۔

میں ایک اور چیز واضح کرنا چاہوں گی کہ فاٹا میں جانے والے راشن پر ٹیکس لگتا ہے۔ جب یہاں سے راشن کے trucks وہاں جاتے ہیں تو راستے میں ان پر مختلف ٹیکس لگتے ہیں۔ وہ ٹیکس بجلی کی مد میں لیے جاتے ہیں اور واپڈا کے accounts میں جاتے ہیں۔ جو بھی revenue حاصل ہوتا ہے، وہ واپڈا کو دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس اصل میں بجلی کا ٹیکس ہوتا ہے۔ شکریہ۔

جناب عبدالصمد خان: میڈم سپیکر! میں point of personal explanation پر بات کرنا چاہوں گا۔

Madam Deputy Speaker: Ok. Go ahead.

جناب عبدالصمد خان: شکریہ میڈم سپیکر۔ محترمہ صاحبہ فاٹا سے چونکہ واحد ممبر ہیں اس لیے وہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ travel کریں تو آپ کو حالات سے آگاہی حاصل ہو۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ I have been traveling the tribal areas. مجھے اتفاق ہوا ہے قبائلی علاقہ جات میں جانے کا، وہاں بجلی کی حالت اتنی بھی بری نہیں جتنا کہ میڈم صاحبہ بتا رہی ہیں۔

Madam Deputy Speaker: This is your opinion and that is hers.

Mr. Abdul Samad Khan: I want to give my opinion and I want to correct the wrong opinion as well.

Madam Deputy Speaker: There is no wrong opinion here. Any opinion can be wrong. I understand where you are coming from.

Mr. Abdul Samad Khan: Madam, the thing is that something should not be misinterpreted like people sitting here, have not visited the tribal belt. You should not give such type of comments which are unrealistic.

وہاں ووٹٹیج اتنی بھی کم نہیں ہوتی۔ اگر 220 اسلام آباد میں مہیا کی جاتی ہے تو وہاں 190 یا 180 سے کم مہیا نہیں کی جاتی۔

میں ایک اور point بھی add کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اتنی بجلی بھی provide کی جارہی ہے تو آپ اس کا bill کیوں نہیں دے رہے۔ جب بھی انہیں بل ادا کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم فاٹا سے تعلق

I don't think FATA people are liable to any type of taxes. اگر ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو

Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Umar Naeem sahib would like to propose an amendment. Please read out the amendment.

جناب عمر نعیم: میڈم! میں نے last line کو amend کیا ہے، اسی کو میں پڑھتا ہوں:

"The government has to strive hard to deal with energy crisis which currently needs to shift balance from oil to coal, hydel and solar in next five years."

Madam Deputy Speaker: I put this motion before the House for approval.

(The motion was carried)

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ شرمین قمر صاحبہ۔

محترمہ شرمین قمر: یہ جو قرارداد propose کی گئی ہے، اس پر بہت سا کام ہم نے اپنی پچھلی حکومت کے platform سے کیا تھا۔ ہم نے بہت سی چیزیں especially energy crisis کے حوالے سے initiate کی تھیں۔

اس سلسلے میں ہمارا ایک اہم قدم یہ تھا کہ ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کروائی تھی for rejuvenation of industrial policy by removing the scourge of energy crisis. اس پلیٹ فارم پر ہم نے industrialists کو بلایا، ہم نے Ministry of Climate کو بلایا تاکہ وہ wind and solar energy کو address کرسکیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی industries جو اپنی بجلی خود produce کر رہی ہیں، جس میں نشاط گروپ آف انڈسٹریز ہے، ڈی جی سیمنٹ ہے، ان سب کو وہاں بلایا۔ ایک چیز جس کا ہمیں exposure ہوا، جیسے انعم نے بتایا کہ 21 یا 22 ہزار میگاواٹ آپ کی installed capacity ہے اور آپ اس وقت تقریباً 13 ہزار میگاواٹ generate کر رہے ہیں جبکہ آپ کی demand تقریباً 17 ہزار میگاواٹ ہے۔ آپ کا shortfall تقریباً 5,500 یا پھر 6,000 میگاواٹ تک جاتا ہے جو کہ کوئی بہت بڑا shortfall نہیں ہے۔ جب ہم وہاں لوگوں سے بات کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں ایک industrialist کے ذریعے پتا چلا کہ پاکستان میں as such کوئی بھی اتنا بڑا shortfall نہیں ہے جسے آپ fill in نہ کرسکیں۔ جس چیز کی یہاں کمی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی research کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے کام ہو رہا ہے جیسے آپ کی industry میں Retina cycle use ہوتی ہے، mechanical engineers اسے بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں، ایک special energy cycle use ہوتی ہے energy production کے لیے، انہوں نے اسے ایک نئی Carina cycle کے ساتھ replace کیا جس میں efficiency کافی زیادہ تھی بہ نسبت پہلے والی Retina cycle کے۔ یہاں کمی صرف ان لوگوں کی ہے جو کہ واقعی اس پلیٹ فارم پر آئیں اور جو چیزیں already موجود ہیں، ان پر کام کریں۔

پنجاب یونیورسٹی میں ایک Directorate of Coal Technology کام کر رہا ہے، اس کے ڈائریکٹر صاحب وہاں آئے اور اسی طرح ایک بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ ان کی ایک presentation بھی میرے پاس موجود ہے۔ جتنا

کام ہم نے کیا ہے، اسے conclude کر کے انشاء اللہ، ہم اس پر ایک رپورٹ بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس presentation کو بھی، انشاء اللہ میں آپ سب کے ساتھ share کرنا چاہوں گی۔ میں اسے آج ہی mail کر دوں گی۔ اس سے ہمیں پتا چلا، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے mention کیا کہ پاکستان کے پاس کافی coal reserves ہیں، internationally اچھے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس میں sulphur کی amount بہت زیادہ ہے۔ اس میں arsenic compounds موجود ہیں اور اس میں بہت سے ایسے compounds پائے جاتے ہیں جنہیں remove کیے بغیر آپ اس کوئلے کو use نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو specifically, industries قائم کرنا پڑیں گی جو اس کو remove کریں اور پھر وہ کوئلہ قابل استعمال ہوگا۔ پہلے آپ کو کوئلہ refine کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، پھر اس coal technology کو آپ use کریں گے تو وہ ایک بہت لمبا process ہے۔

عمر نے ایک amendment propose کی کہ سولر انرجی use کرنی چاہیے تو solar energy اور wind energy یہ تمام وہ alternative resources ہیں جن کو اگر use کریں تو آپ کی installed capacity بہت آگے جاسکتی ہے۔ میرے خیال میں 5,500 میگاواٹ کوئی اتنا بڑا shortfall نہیں ہے جسے ہم پورا نہیں کر پارہے اور جس کے لیے ہمیں بار بار 31 دسمبر کی deadline دینی پڑ رہی ہے۔ اس کانفرنس سے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا issue, energy crisis ہے، جس طرح کچھ علاقوں میں 24 گھنٹے اور کچھ میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہاں جاکر ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں as such ایسا کوئی energy کا shortfall ہے ہی نہیں جسے meet کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ energy کا shortfall نہیں ہے بلکہ نیت کا shortfall ہے جسے ہمیں اس وقت meet کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: جناب معتمد صاحب۔

Mr. Motasim Billah Khan: Thank you honourable Speaker. I would like to tell you about the electricity distribution in Pakistan which is not going well. The deprived areas are more deprived. I would like to present the example of North Waziristan where a dam is located namely Gomal Zam Dam. A large amount of electricity is produced here but nothing is preserved for the tribal people. All of it is used for the welfare of surrounded areas like D.I. Khan, Lakki Marwat and Tank. From this platform, I appeal to the Government of Pakistan to take notice of this situation and remove the deprivation of the tribal people. Otherwise, terrorism will expand because of the feeling of deprivation. Thank you.

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم رستمائی صاحب! براہ کرم اپنے comments تھوڑا brief رکھیے گا کیونکہ ہمیں وقت کی کمی کا سامنا ہے۔

جناب اشفاق احمد رستمائی: شکر یہ میڈم سپیکر۔ اصل میں energy crisis کے بارے میں سب کو پتا ہے، اس کے causes کا بھی ہم سب کو پتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کے solution کی true sense میں implementation کیسے کریں۔ ہمیں شروع سے یہ مسئلہ درپیش ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں power and energy کا جب بھی کوئی منسٹر لایا جاتا ہے تو اس کے چارے کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ energy کا unit کیا ہوتا ہے۔ کہاوت ہے کہ if gold is rusted then what shall iron do. جب اوپر سے system ٹھیک نہ ہو تو آپ اسے

نیچے سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں power sector کے منسٹر کو power اور energy کے یونٹ کا ہی پتا نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی qualification نہیں ہوتی، وہ ایک simple graduate ہوتا ہے، آخر وہ اتنے بڑے institution کو کیسے efficiently چلا سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میری گزارش ہوگی کہ اس sector کو چلانے کے لیے اچھے پڑھے لکھے بلکہ پی ایچ ڈی تعلیم یافتہ لوگوں کو سامنے لائیں تاکہ وہ معاملات کو چلا سکیں۔

دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں واپڈا کے ہر ڈویژن میں جو نچلی سطح کے افسران ہوتے ہیں، وہ بلوں کی عدم ادائیگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہر جگہ یہ ہورہا ہے، ہم کہتے ہیں energy crisis ہے لیکن واپڈا والے ایک روپیہ بھی حکومت کو نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں بل وصول ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینا چاہوں گا، میٹر ریڈر ہر گھر میں جاتا ہے اور ریڈنگ کرتا ہے کیونکہ افسر تو گھر گھر نہیں جاسکتا کہ کس نے کتنی بجلی استعمال کی ہے۔ پاکستان کے ہر گھر میں اے سی ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، جب میٹر ریڈر ہر گھر میں جاتا ہے، میٹر ریڈنگ کرتا ہے تو اس کا گھر والوں کے ساتھ ایک compromise یا commitment ہوتی ہے۔ ہر گھر سے وہ ایک ہزار، دو ہزار یا تین ہزار روپے لیتا ہے۔ جتنے بھی units consume ہوں، وہ صرف ایک ہزار یا پندرہ سو کا بل show کرتا ہے۔ اگر ٹھیک طریقے سے billing ہو تو اس ایک گھر سے تقریباً چار یا پانچ ہزار روپے کا بل وصول ہوسکتا ہے۔ ایک میٹر ریڈر، ایک بیوروکریٹ سے بھی زیادہ پیسا کماتا ہے اور ہر گھر سے اس کی monthly fix ہوتی ہے۔ ہمارے واپڈا کے افسران بھی اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت کو پیسا ملتا نہیں تو finally یہ ہونا ہے energy crisis پیدا ہوتا ہے۔

میں آپ کو ایک practical example دینا چاہوں گا۔ ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً دس سے پندرہ ہزار tube-wells ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک irrigated country ہیں۔ ایک ٹیوب ویل تقریباً پانچ سو سے ایک ہزار ایکڑ زمین کو آباد کرتا ہے۔ یہ ٹیوب ویل کسی غریب آدمی کے نہیں بلکہ land-lords اور politically affiliated لوگوں کے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی ٹیوب ویل کے مالک سے پوچھیں کہ آپ کو بجلی کا کتنا بل آتا ہے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا۔ مہینوں اور سالوں تک ٹیوب ویل ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، energy waste ہوتی رہتی ہے، واپڈا کا کوئی بندہ وہاں جاتا نہیں، ان سے bill لیتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ energy کے shortfall کا سامنا ہے۔

یہ جو institutional level پر corruption ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس energy crisis کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بحران کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہم hydel کی طرف جائیں، نہ کوئلے پر اربوں روپے invest کریں بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنے system کو ٹھیک کریں۔ جب system کو ٹھیک کریں گے تو ہر کسی کے گھر میں بجلی ہوگی۔ آپ system ٹھیک کریں، honest officers لائیں، اچھے بندوں کو لائیں گے تو system خود بخود ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہاں political will موجود ہی نہیں۔ میرے خیال میں افسران اور منسٹرز اپنی دکانداری بند نہیں کریں گے۔ ان کو مال پیسا ملتا ہے، وہ system کو ٹھیک کرنے نہیں بلکہ پیسا کمانے کے لیے آتے ہیں۔ پانچ سال کے لیے تو بے چارے آتے ہیں۔ کیا پانچ سال کے لیے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ system کو ٹھیک کریں

اور ان کے بچے بھوکے مریں۔ پیسا چلتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر کسی کو پتا ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں۔ That is my own personal observation. بڑے افسران جو اس level پر کام کرتے ہیں، کیا ان کو اس efficiency کا علم نہیں؟ کیا ان کو اس corruption کا پتا نہیں؟ کیا ہمارے پرائم منسٹر، واپڈا کے منسٹر یا پھر دوسرے departments کے لوگوں کو پتا نہیں کہ energy کے معاملے کو کس طرح control کیا جاسکتا ہے۔ ان لوگوں کو پتا نہیں کہ کہاں کہاں خلا ہے؟ ان لوگوں کو پتا نہیں کہ کہاں کہاں energy loss ہوتا ہے؟ یہ سب ٹوپی ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ energy crisis ہے، یہ بے اور وہ ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ honesty لائیں، اچھے افسران کو appoint کریں، اچھی نیت رکھیں تو معاملات بہتر ہوجائیں گے۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عمر اویس صاحب۔

جناب عمر اویس: میڈم! میں ایوان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں voluntarily deprived blog کو join کرتا ہوں۔ گومل زام ڈیم کی بات کی گئی، وہ تو شاید آج کی یا ایک دو سال پہلے کی پیداوار ہوگا، منگلا ڈیم جسے ایوب صاحب بنا کر گئے، اس کی production 800 MW کے قریب ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے شہر میرپور کی کھپت صرف اور صرف 30 میگاواٹ ہے لیکن وہ شہر جو منگلا کی پہاڑیوں پر آباد ہے، اسے اگر 30 میگاواٹ نہیں دیے جاتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گومل زام ڈیم کے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ سوئی گیس فیلڈ پر سب سے زیادہ حق سوئی کے لوگوں کا ہے یا گومل زام ڈیم پر حق سب سے پہلے اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ہے تو اسی طرح پھر جہلم کے پانی پر جہلم کے اردگرد رہنے والوں کا حق پہلے ہونا چاہیے۔ وہ پانی شیخوپورہ، گجرانوالا اور نہ جانے کس کس ذرخیز علاقے میں جاتا ہے اور وہاں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ علاقے قومی سطح پر کافی زیادہ food items generate کرتے ہیں لیکن اگر deprived blog کے یہ arguments ہیں تو پھر میں بھی اس blog کو join کرتا ہوں۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم جنید اشرف صاحب۔

جناب جنید اشرف: شکریہ میڈم سپیکر۔ جب سے سیشن شروع ہوا ہے، لوگ politicians کو blame کر رہے ہیں اور بہت سخت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہر politician corrupt نہیں ہوتا اور system بھی پورا خراب نہیں ہے بلکہ ہم لوگ خود corrupt ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پلیٹ میں تیار ملے اور ہم اسے صرف کھائیں۔ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ سب کو steps لینا پڑیں گے۔ آپ خود کو change کریں تو یہی change نیچے سے اوپر بھی جاسکتی ہے۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم فیضان ادیس صاحب۔

جناب محمد فیضان ادیس: میڈم! یہاں کچھ ارکان نے corrupt system کی بات کی، میں ان کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں لیکن اگر ہمارا institution corrupt ہے، میٹر ریڈر corrupt ہے تو اتنے ہی corrupt ہم خود بھی ہیں جو monthly کی صورت میں اسے ہزار دو ہزار روپے دے رہے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ offer

plants, their cost will be more than even the Pakistan-Iran Pipeline Project. کا بحران نہیں ہے بلکہ ہمارا مسئلہ ہماری short-sighted policies بھی ہیں۔

ہم کرتے کیا ہیں؟ نوے کی دہائی میں دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت کم تھیں، پاکستان نے فیصلہ کیا کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل سے چلنے والے پلانٹس کی طرف جانا چاہیے۔ 2000 میں ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کے پاس تو natural gas کے بہت زیادہ resources ہیں، اس لیے گیس کی طرف جانا چاہیے۔ So we decided to move to the gas. In 2013, we are discussing again to move towards the coal. بے کہ مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ ایک long term policy ہوتی ہے۔ چونکہ ہر ایک نے points raise کیے ہیں اور اس میں complications کتنی ہیں، technicalities کتنی ہیں، اس لیے میں at the end حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے پر ایک رپورٹ بنائی جائے کہ ایک feasible and long term option کیا ہے۔ ایک long term option اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ 2023 میں یعنی دس سال کے بعد ہم پھر یہ discuss کر رہے ہوں کہ lets move from the coal beyond. oil پر آجائیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم جس پالیسی کو لائیں، وہ long term ہونی چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے ہماری پالیسیاں long term نہیں رہیں۔ Energy crisis is one of the product or outcome of these short-sighted policies. بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم پرائم منسٹر صاحب۔

رانا فیصل حیات (یوتھ پرائم منسٹر): شکریہ میڈم سپیکر۔ دونوں اطراف سے، حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے کافی productive اور detailed discussion ہوئی۔ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کیا۔ I was taking notes all along.

سب سے major issue جس کی وجہ سے یہ energy crisis سامنے آیا ہے that is undoubtedly the governance failure of the past, particularly, the past two governments. reaction اس پر حالیہ الیکشن میں لوگوں نے جو دیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ جو نئی حکومت آئی ہے، اس کی will power بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ The Prime Minister right now is in China for the energy sector problems. He is there discussing all the options. پنجاب حکومت نے چار solar power projects شروع کیے ہیں۔ مختلف منصوبوں کی feasibilities بن رہی ہیں کہ کون سا منصوبہ، کس جگہ ہمیں کتنی help کرسکتا ہے۔ یہ تمام کافی complicated issues ہیں۔ کونہ میں سفر کی مقدار کا بھی issue ہے، oil کا، گیس کا، oil prices کا، سولر پاور کی efficiency کا، تو یہ مختلف issues ہیں۔ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں initiative لیا ہے اور realize کیا ہے کہ ایسی پالیسی نہیں بنانی کہ صرف دو سال گزارنے والی بات ہو۔ They know if they don't perform, particularly in this sector, they will be kicked out the next time in elections.

اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پٹرولیم پالیسی 2009 کی، فیضان ادريس صاحب نے اس کا ذکر کیا، اس کو بھی revisit کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک circular debt کا issue ہے، 300 ارب pay کر دیا گیا ہے۔ The Government has asked to clear the circular debt by 20 or 25th of August. That is the deadline. The circular debt amounts to roughly Rs.502 billion.

ہماری یوتہ پارلیمنٹ کی honourable former Prime Minister نے اس معاملے پر پچھلے sessions میں کافی کام کیا ہے۔ اس کا انہوں نے تھوڑا ذکر بھی کیا ہے۔ As a principled stand of the Government ہم دو تین معاملات پر کمیٹیاں بنا رہے ہیں جن کے ذریعے ہم emergency basis پر رپورٹس لینا چاہیں گے۔ Energy and power is also one of those issues. After discussing in the party, I also announce that we are going to create a special committee on energy and power. اس سلسلے میں discuss کرنے کے بعد ہم پارٹی سے بھی نام لیں گے۔ We will, insha-Allah, put our best team of engineers and professions who will work on it. I would also request the Leader of the Opposition to give a name from the opposition party who can collaborate with us. ہم کوشش کریں گے کہ جو یوتہ پالیسی ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم اس پالیسی کو next time سے ساری feasibilities کے ساتھ from all the options which we can utilize, not only to cater this problem for the next two years, in fact to cater it for the next twenty to thirty years, اس پر ساری working کر کے، ہم اسے اگلے سیشن کے پہلے دن present کریں گے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Now I put the motion/resolution moved by Mr. Amin Ismaili to the House.

(The motion was carried)

Madam Deputy Speaker: Now we are going to move on to the next item on our agenda. Mr. Reyyan Niaz, please move the item.

Mr. Reyyan Niaz: Thank you Madam Speaker. I and Ms Momna Naeem would like to move the following resolution:

"This House strongly believes that Government should take steps to help women attain the rights they deserve in the society. Adequate efforts are required in education, health and family arenas of women life. Recent Government has taken some initial steps to improve women status and the role of NGO's in this sector cannot be neglected."

ڈپٹی سپیکر صاحبہ! ہم لوگ ایک عرصے سے بہت سے issues پر بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کا ایک grim issue یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین اپنے حقوق کے سلسلے میں ابھی تک struggling phase میں ہیں۔ اگر ہم شعبہ تعلیم کو دیکھیں تو ہمارے سامنے پچھلے سال کی ایک مثال ہے۔ ہمارے ملک کی ایک چھوٹی بچی جو اسکول جاتی تھی، اسے نشانہ بنایا گیا تاکہ اس کے ذریعے آگے جانے والی دوسری بچیوں کے لیے ایک مثال قائم کی جاسکے کہ وہ اسکول، کالج نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص صوبے میں اور دوسرے صوبوں میں بھی لڑکیوں کے اسکول جلائے جاتے ہیں تاکہ ان کو گھروں میں رکھا جائے اور انہیں actively participate نہ کرنے دیا جائے۔

اسی طرح کی صورتحال صحت کے شعبے کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ women کے لیے کوئی special health reforms نہیں آتیں۔ اس کے بعد جہاں تک family issues کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ domestic violence روز کا معمول بن چکا ہے۔ کاروکاری اور جہیز کی پابندی جس کی بنیاد پر عورتوں

کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے پاس ان کی exact figures تو نہیں ہیں لیکن کافی بڑی ratio ہے۔ ہمیں ان معاملات کو اچھی طرح مدنظر رکھنا چاہیے۔

میں نے پچھلی حکومت کا ذکر کیا کہ اس نے کچھ initiatives لیے تھے۔ ان کا ایک اچھا initiative, Domestic Violence Bill تھا۔ اس میں انہوں نے کچھ liabilities دی تھیں کہ اگر کوئی خاتون کسی violence کے خلاف رپورٹ کرے تو فوراً اس کی FIR درج کی جاتی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس طرح خواتین کی funding کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عورتوں کے چھوٹے موٹے finances کے issues کو resolve کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے loans کے ذریعے وہ further grow کرسکیں۔

ہمارے ملک میں اس طرح کے initiatives بے شک 2006 میں لیے گئے لیکن بہرحال وہ اچھے اقدام تھے۔ اب ہماری خواتین آرمی میں بھی بھرتی ہوسکتی ہیں۔ انشاء اللہ، یہ figures وقت کے ساتھ بڑھتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مختلف organizations اور NGOs ہیں جن میں خواتین کام کر رہی ہیں، ان میں APWA عورت فاؤنڈیشن اور دوسرے بے شمار نام ہیں جو کہ women rights کے لیے کام کر رہے ہیں۔

میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بے شک عورت کو ہمارے معاشرے میں کمزور اور نازک سمجھا جاتا ہے لیکن جب بھی کوئی خاتون کسی بھی شعبے میں کوئی part play کرتی ہے تو وہ ہمیشہ دوسروں سے کچھ بہتر ہی کرتی ہے۔ اگر ہم economy کے شعبے میں دیکھیں تو اگر ایک خاتون نے کوئی brand launch کیا تو وہ اسے اچھی طرح چلاتی ہے۔ ہمارے سامنے پاکستان کے اچھے اچھے brands کی مثالیں ہیں۔ ماریہ بی کا نام ہے جنہیں international recognition حاصل ہے۔ اس کے علاوہ Hina's Lounge اور اسی طرح کا اور بہت سا stuff ہے۔ میڈیا کی بات کریں تو حال ہی میں ایک خاتون شرمین عبید چنائے نے آسکر ایوارڈ بھی جیتا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کئی صحافی خواتین موجود ہیں، عاصمہ شیرازی جیسی، آسیہ شیخ جیسی جو کافی actively participate کر رہی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں۔

آخری بات میں politics کے حوالے سے کروں گا۔ اس ملک کو بنانے میں فاطمہ جناح نے جو کردار ادا کیا، وہ ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور اس ملک کے حصول کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا۔ She was the first lady who helped us out in a great way. یہ ملک چلا اور ایک محترمہ آئیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جنہوں نے اس ملک کو rule کیا۔ کچھ issues تھے لیکن میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ جب ایک عورت آتی ہے تو شاید اس کا اتنا confidence level نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے، participate کرتی ہے تو وہ ایک مرد سے تھوڑی سی مختلف ضرور ہوتی ہے۔ اس میں کچھ کمی ہوتی ہے لیکن ہمیں اسے compensate کرنا چاہیے۔

میں اس ایوان کی بات کرنا چاہوں گا، اس ایوان میں بھی چار سال بعد وہ وقت آ ہی گیا جب اسے کچھ عرصے کے لیے، تقریباً اڑھائی سیشن کے لیے ایک عورت نے rule کیا۔ ہر بندے سے غلطی سرزد ہوتی ہے، میں صرف اس عورت کی بات نہیں کر رہا، ہم سب سے غلطی ہوسکتی ہے، میں تمام لڑکیوں کی جو یہاں بیٹھی

ہے، equal respect کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری مل کر ایک movement چلاتیں کیونکہ یہ ان عورتوں سے different ہیں جو گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہیں۔ صبح سے اب تک دو تین مرتبہ میں سن چکا ہوں، ہمارے اس ایوان کی کچھ representation دوسرے صوبوں سے بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ deprived ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے علاقے کا visit کریں۔ میں ان کو اس بات کی guarantee دیتا ہوں کہ وہ بلائیں نہ بلائیں، اگلی بار میں ان کے ساتھ چلوں گا جہاں وہ کہیں گے۔ جو مسئلہ ہوگا، میں سب سے آگے ہوں گا۔ اگر security threat ہوگا تو میرے سینے پر پہلے گولی لگے گی، ان کو بعد میں مسئلہ ہوگا۔

میں اپنی بات کو conclude کرنا چاہوں گا۔ اگر ہمیں کوئی lead کرتا ہے، چاہے وہ ایک عورت ہے، ہمیں اس کو disrespect نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں proud feel کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اسے مل کر ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو سدھارنا چاہیے نا کہ leg pulling کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم دنیا کو دکھاسکیں گے کہ خواتین ہمیں lead کر سکتی ہیں۔ We are Pakistanis and support the emancipation of women. بہت شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ مومنہ نعیم صاحبہ۔

Miss Momna Naeem: Thank you Madam Speaker. I begin with the name of Allah. I would speak on the importance of the rights of women and in the end, I would like to give some recommendations.

ریان صاحب نے education کی بات کی، مجھے بتانا اچھا تو نہیں لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں خواتین کا literacy rate 39.6% ہے جبکہ مرد حضرات کا 67.7% ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہیں دیکھ لیں کہ خواتین کو کتنا پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور مردوں کو کتنا آگے لایا جا رہا ہے۔ یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس وقت male dominant society بنتی جا رہی ہے۔

اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمارے مذہب نے خواتین کو مردوں کے ساتھ برابری کے حقوق دیے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حوالے سے خواتین کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے مردوں کو۔ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر ایک مرد متقی ہے تو اسے دو گنا ثواب ملے گا اور اگر ایک عورت متقی ہے تو اس کو آدھا ثواب دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان حقوق میں کمی کرنے والے۔

اگر اس ایوان کی مثال سامنے رکھی جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم پر ایک خاتون پرائم منسٹر rule کر رہی تھیں۔ دوسری طرف، محترم پرائم منسٹر صاحب نے حال ہی میں اپنی کابینہ کا اعلان کیا لیکن جیسے ہی نئی کابینہ کا اعلان ہوا تو ہم نے دیکھا کہ صرف ایک خاتون، منسٹر بنیں جبکہ باقی تمام male ministers تھے۔ اس سلسلے میں اگر ratio کو بہتر کر لیا جائے تو مناسب بات ہوگی۔

محترم سپیکر صاحبہ! میں آپ کی توجہ social issues کی طرف دلانا چاہوں گی۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی مرد کے چہرے پر کسی عورت نے تیزاب پھینکا ہو۔ ہم نے نہیں سنا کہ کسی مرد کے ناک یا کان چھری سے صرف اس لیے کاٹ دیے گئے ہوں کیونکہ اس کی عورت کو اس پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ چیزیں کیا

ظاہر کرتی ہیں؟ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو سب کچھ کرنے کا حق ہے لیکن عورتوں کو کچھ کرنے بلکہ even بولنے کا بھی حق اس society میں حاصل نہیں ہے۔

ہم آج تک یہ سننے کی جرات نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ایک کمزور اور ناتواں خاتون کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی کچھ ایک مضبوط مرد کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر male dominant ہو چکا ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ آگے آئیں یا مردوں سے آگے نکلیں۔

ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات بے حسی کی چادر اتار پھینکیں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو آگے لے کر آئیں گے تو obviously ہماری قوم ترقی کرے گی۔ ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں، اسے تعلیم دیتے ہیں یا اسے آگے لے کر آتے ہیں تو آپ ایک فرد کی ترقی کا بندوبست کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک خاتون کو پڑھاتے ہیں اور اسے آگے لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کی نسلیں سنوار دیتی ہے۔

آخر میں conclude کرتے ہوئے میں کچھ وعدوں کو آج اس ایوان میں دہرانا چاہوں گی اور میری خواہش ہوگی کہ میرے ساتھ سب لوگ بھی ان کو دہرائیں اور ان پر قائم رہیں۔

نمبر 1- ہمیں مذہبی بنیاد پرستی کے ہاتھوں، عورتوں پر دباؤ نامنظور ہے۔

نمبر 2- ہم عورتوں کے خلاف تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں۔

نمبر 3- ہم نظام پدری اور عورتوں کی محکومی کے خلاف ہیں۔

نمبر 4- ہم عورتوں پر تیزاب پھینکنے جیسے کریہہ اور گھناؤنے کام کی مذمت کرتے ہیں۔

آخر میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کروں گی:

مقالات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن

اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم اسد عبدالمحمد صاحب۔

جناب اسد عبدالمحمد: شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحبہ۔ جب میں یہ resolution پڑھ رہا تھا، اس وقت تو یہ کافی relevant اور deep لگ رہی تھی لیکن explanation دیتے وقت اگر تھوڑی بہت seriousness ہوتی، آپ نے جو examples استعمال کیے، اگر اس پر تھوڑی بہت research کر لیتے، وہ examples تھوڑی well thought out ہوتیں، اگر آپ کے الفاظ تھوڑے بہتر ہوتے تو آپ کی resolution میں تھوڑا بہت دم ہوتا۔

دوسری بات، اگر آپ resolution لارہے تھے تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس میں حکومت کی کیا کمزوریاں ہیں اور، اس میں ہمارے معاشرے کی کیا کمزوریاں ہیں۔ اگلی مرتبہ اگر کوئی resolution لائیں تو کوشش کریں کہ اس ایوان کی اور اس پلیٹ فارم کی اہمیت کو برقرار رکھیں۔ اس کی seriousness برقرار رکھیں اور جو examples دیں، جو گفتگو کریں اور جو الفاظ کا استعمال کریں، وہ بھی اسی کی مناسبت سے کریں۔ شکریہ۔

محترمہ مومنہ نعیم: میڈم! میں کچھ explain کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ہمیں issue سے relevant رہنا چاہیے، میرے خیال میں آپ کسی کی زبان کو پکڑ کر اس پر filter نہیں لگا سکتے کہ اس سے صرف specific الفاظ باہر آنے چاہئیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کوئی بدتہذیبی کی ہے یا کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔

دوسری بات، میں کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس کچھ recommendations ہیں اور چونکہ ایوان چاہتا ہے کہ میں انہیں دہراؤں تو میں انہیں دہرانا پسند کروں گی۔

سب سے پہلے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ policies بنائے اور birth rate میں reduction اس طرح سے کی جائے کہ ایک خاتون پر، اس کے کندھوں پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجہ نہ ڈالا جائے۔

میری طرف سے next recommendation یہ ہے کہ quota for female students or candidates in politics, in industry, in education and everything may be enhanced. جائے۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ! اس recommendation کے حوالے سے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو کہ 20 ویں صدی کے فلاسفر برٹینڈ رسل نے کہی۔

He talked about how women go out of their homes and have a professional life. They go through this phenomenon which he termed double burden that they have to take care of their house, their domestic life and also they have to cater the needs of their professional life as well.

کیا آپ کے پاس اس صورتحال کے بارے میں بھی کوئی recommendations ہے؟

محترمہ مومنہ نعیم: میڈم سپیکر! بات یہ ہے کہ reduction in birth rate ہوگا، domestic violence نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک عورت کو جب وہ نوکری کے لیے جائے گی تو اس کے شانوں پر بھی اتنا ہی بوجہ ہوگا جتنا کہ اس کے fellow members پر ہے تو obvious سی بات ہے کہ وہ تمام معاملات کو balance کر سکے گی۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم جتنی بھی females یہاں بیٹھی ہیں، ہم بھی ایک فیملی کے setup سے اٹھ کر آئی ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی فیملی کو time دینا پڑتا ہے اور اپنی studies کو بھی۔ میرے خیال میں ابھی تک ہم میں سے کوئی married خاتون نہیں ہے لیکن ہمارے کندھوں پر بھی almost اتنا ہی بوجہ ہے۔ ہم بھی اپنی فیملی کو time دیتے ہیں، یہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ jobs کرتے ہیں۔ میرے خیال میں شادی کے بعد جو حالات کسی خاتون کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر ان میں تھوڑی نرمی کی جائے یا domestic violence کے لیے پالیسی بنائی جائے تو یہ چیز cater ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد quota for women کے لیے میں نے بات کی۔ پھر میرے پاس ایک اور recommendation ہے کہ خواتین کے لیے complaint registration centres ہونے چاہئیں۔ میں نے راولپنڈی میں ایک جگہ ایسا سینٹر دیکھا ہے لیکن اس کی حالت اتنی مخدوش تھی کہ میرا دوسری مرتبہ اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہا۔ میری recommendation یہ ہے کہ خواتین کے لیے complaint registration centres بنائے جائیں جہاں خواتین ہی بیٹھی ہوں، جو ان کی بات سنیں، ان کی شکایات درج کریں اور پھر ان کا ازالہ کیا جاسکے۔ That is all from me. شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ شرمین قمر صاحبہ۔

محترمہ شرمین قمر: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ بلاشبہ یہ ایک اہم resolution ہے۔ ریان نے کہا کہ شاید ان کے پاس آج کل خواتین پر ہونے والے مظالم کے statistics موجود نہیں ہیں۔ میں کچھ statistics share کرنا چاہوں گی۔

صرف ایک سال میں 2079 عورتیں اغوا ہوئیں۔ 1575 قتل ہوئیں۔ 608 پر کاروکاری کا الزام لگا۔ 705 پر تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ 44 عورتوں پر تیزاب پھینکا گیا۔ 29 کو زندہ جلادیا گیا۔ 827 کی عصمت دری کی گئی۔ اس پر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا:

مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی
یہ شہدا کی ہم جنس، رادھا کی بیٹی
بیمبر کی امت، ذلیخا کی بیٹی
ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں
ذرا ملک کے ربیروں کو بلاؤ
یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ منظر دکھاؤ
ثنا خوان تقدیس مشرق کو لاؤ
ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں

محترمہ سپیکر صاحبہ! لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کی population میں 51% خواتین ہیں جبکہ آپ کا معاشرہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے۔ جہاں 51% عورتیں ہوں اور معاشرہ پھر بھی مردوں کا کہلائے تو اس ملک میں آپ کیا expect کرتے ہیں کہ ایک عورت کی dignity کیا ہوگی، اس کا stature کیا ہوگا اور اس کی value کیا ہوگی۔

اس موضوع پر بہت سی باتیں ہوئیں، میں کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کے رویوں کو نہیں بدلیں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ شاید ہم اسے accept کریں یا نہ کریں، ہم سب کے انفرادی رویے ایسے ہیں کہ ہم نے اب تک عورت کو اپنے برابر تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہاں بیٹھے ہوئے معزز افراد میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ خواتین حقیقت میں ان سے کسی طور کم نہیں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لانی ہے کہ آپ at least accept کرو۔ آپ عورتوں کی existence کو، ان کے وجود اور ان کی importance کو accept کرو۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں economy کی، ہم یہاں بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کی، مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے کہ جب کمانے والے صرف 49% ہوں اور بیٹھے کر گھروں میں کھانے والے 51% ہوں تو آپ کون سی ترقی expect کر رہے ہیں یا کس سے ترقی expect کر رہے ہیں۔

دو طرح کی terms استعمال ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں growth with equality یعنی سب کو برابر حقوق دیے جائیں۔ دوسری کو growth with equity کہا جاتا ہے۔ جب ہم race شروع کرتے ہیں تو ایک ہی starting point سے کرتے ہیں۔ آپ جب women empowerment کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو at least پہلے

اس starting point پر تو لائیں جہاں سے آپ race start کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد دوڑ لگوائیں اور پھر بتائیں کہ خواتین کہاں آپ سے پیچھے ہیں۔ جب آپ یہ expect کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے starting point سے دو فرلانگ پیچھے کھڑی ہوں، جب gun fire ہوگا تو آپ starting point سے بھاگنا شروع کریں گے اور وہ پیچھے ہوں گی اور وہ اپنے آپ کو prove نہیں کر پائیں گی۔ اس طرح آپ کیسے عورتوں کی incapability کو justify کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح justify کر سکتے ہیں کہ خواتین مردوں کے برابر نہیں ہیں۔

یہاں کچھ examples دی گئیں، میں انہیں دہرانا نہیں چاہوں گی۔ اس ایوان میں جو کچھ ہوا ہم سب نے دیکھا، وہ نکتہ ایسا نہیں جس پر ہم بات کر سکیں۔ ہماری کابینہ کی تشکیل ہوئی، اس پر مجھے بھی بہت سے تحفظات تھے۔ میں یہاں discuss نہیں کرنا چاہتی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ ہماری پارٹی کی میٹنگ میں یہ بات discuss ہو کیونکہ یہ Blue Party کا internal affair ہے لیکن اب جب کہ already یہ issue on board آچکا ہے، پرائم منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں ان سے expect کر رہی تھی لیکن مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کابینہ کی تشکیل کے وقت خواتین کی ratio کا خیال نہیں رکھا۔ اگر عورتوں کی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر بھی کم از کم دو خواتین کا کابینہ کا ممبر ہونا حق بنتا ہے۔ میں women empowerment کی بات نہیں کر رہی، اگر آپ women empowerment کی بات کرتے تو at least اسے increase کر کے سامنے لاتے۔ میں مانتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ یہی کہیں گے کہ یہ آپ کی پارٹی کا internal matter ہے، اس کو پارٹی میٹنگ میں اٹھانا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ بات شروع ہو گئی تھی، میں نے صبح بھی اس بات کو موقوف کر دیا۔ مجھے اپنی کابینہ پر تحفظات شروع ہوئے تو میں نے اس بات کو تب بھی pending کیا کہ اسے ہم پارٹی میٹنگ میں discuss کریں گے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے request کروں گی کہ اس issue کو بھی زیر غور لائیں کیونکہ جب تک آپ 51% آبادی کو نظر انداز کرتے رہیں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب آپ انہیں گھروں کی چار دیواریوں میں قید کر کے ترقی کی بات کرتے ہیں تو خدا کی قسم، مجھے ہنسی آتی ہے کہ آپ کون سی ترقی expect کر رہے ہیں۔ جب آپ کی نصف سے زائد آبادی گھروں میں بیٹھی ہے اور دوسری طرف آپ 49% کو race میں دوڑا رہے ہیں تو کون سی ترقی expect کر رہے ہیں۔ شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عبدالصمد صاحب۔

جناب عبدالصمد خان: شکر یہ میڈم سپیکر۔ جس طرح اسد صاحب نے بھی بات کی کہ resolution کو بہت زبردست طریقے سے draft کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو arguments دیے گئے ہیں، وہ resolution سے تھوڑے ہٹ کر ہیں۔ مطلب to the point نہیں ہیں۔ یہاں بات کی گئی کہ the government should take steps to help women attain the rights they deserve in the society. It is truly a fact that they should be given the rights they deserve in the society. جب مومنہ صاحبہ اس قرارداد کو پیش کر رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ education میں، employment میں اور اسی طرح پارلیمنٹ میں جب selection ہوتی ہے تو آپ وہاں reserved quotas رکھا کریں۔

میڈم سپیکر! میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم issue کی طرف دلانا چاہوں گا کہ میڈیکل کالجز میں admissions کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے لیے ایک علیحدہ کوٹا ہوتا تھا۔ اس کے تحت لڑکیاں select

ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر open merit کا طریقہ اپنا لیا گیا، چاہے جتنی لڑکیاں آئیں یا لڑکے آئیں، open merit ہے جو چاہے select ہو جائے۔ خیبر میڈیکل کالج صوبہ خیبر پختونخوا کا Number one میڈیکل کالج ہے، میں اس کے statistics آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہاں almost ہر سال 55 سے 65 فیصد داخلے لڑکیوں کے ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب job کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی ratio بہت کم ہوجاتی ہے۔ ان میں سے جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ almost سارے کے سارے professionally اس field میں جانا چاہتے ہیں لیکن آدھی سے زائد لڑکیاں professionally اس field میں جانا نہیں چاہتیں۔ میری تھوڑی سی reservation ہے کہ کوٹا نہ رکھا جائے۔

دوسری بات، جہاں تک پارلیمنٹ میں کوٹے کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ میں already کوٹا رکھا گیا ہے۔ انشاء اللہ، اس معاملے پر پرسوں ایوان میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور میں detail میں بتاؤں گا۔ ابھی یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں 60 ارکان ہوتی ہیں۔ پنجاب میں 72، خیبر پختونخوا میں 25 اور اسی طرح باقی صوبوں میں خواتین کی reserved seats ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا اصل کام legislative business, carry out کرنا ہے جبکہ خواتین کی legislative business کے حوالے سے involvement بہت کم رہی ہے جبکہ یہاں آپ برابری کی بات کرتے ہیں؟ حقوق جو خواتین deserve کرتی ہیں، ان پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس قرارداد میں بات کی گئی کہ efforts are required in education, health and family arenas of women life. It is fine. انہیں تعلیم دو، صحت کی سہولتیں دو، بہتر family life provide کرو، even job opportunities provide کرو، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ مردوں کے rights کو overcome کر کے عورتوں کو حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ برابری کی بات کرتے ہیں تو پھر direct elections میں حصہ لے کر آجائیں۔ ابھی حال ہی میں جو elections ہوئے ہیں، اس میں وزیر اعظم منتخب ہونے والے کے مقابلے میں ایک خاتون کھڑی تھیں جو کہ 55 ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں۔ She secured 55,000 votes, that is an achievement. اگر اس کے بعد بھی آپ reserved seats کی بات کرتے ہیں تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے اور میں اسے recommend نہیں کروں گا کہ آپ reserved quota کے ذریعے انہیں select کرو۔ Overall as the resolution is drafted, I totally endorse it لیکن یہ جو arguments raise کیے جا رہے ہیں، یہ تھوڑے resolution سے ہٹ کر ہیں۔ براہ مہربانی! آپ to the point رہیں۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم رفیع اللہ کاکڑ صاحب۔

Mr. Rafiullah Kakar: Thank you Madam Speaker. I totally endorse this resolution. I believe very useful contributions were made by Miss Momna and Miss Sharmeen Qamar.

میں کچھ باتیں add کروں گا۔ ریان نیاز صاحب نے resolution تو بڑی اچھی پیش کی، اس کی support میں جو arguments دیے، ان میں سے کچھ پر مجھے اعتراض ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ارادی طور پر یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا کیا۔

ان کا پہلا argument یہ تھا کہ ہم جیسے معاشرے میں، عورتوں میں اعتماد کم ہوتا ہے۔ میں اس سے disagree کرتا ہوں۔ I believe that it is the same stereotypical argument which a male dominant society gives about the women. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں زخمی شیر کی طرح ہوتی ہیں جس میں

حوصلہ اور ہمت مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک اور بات کی کہ عورتوں میں کمی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات unintentionally کہی ہے لیکن اس کا expression اچھا نہیں جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کمی صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مردوں میں نہیں ہوتی۔ No one is perfect. کمی ہر کسی میں ہوسکتی ہے، flaw ہر کسی میں ہوسکتا ہے۔ خاص طور پر یہ کہنا کہ عورتوں میں اعتماد کم ہوتا ہے یا ان میں کچھ flaws ہوتے ہیں، میں اس بات سے agree نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ stereotypical mentality of a male dominant society کا reflection ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ اس طرح کی باتوں سے avoid کریں اور احتیاط سے بات کیا کریں۔

دوسری بات، میں شرمین قمر اور مومنہ کی اس demand کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ میں women کو due share ملنا چاہیے۔

پھر میں main argument میں کچھ practical recommendations کی طرف آتا ہوں۔ یہاں بہت سی باتیں ہوئی ہیں کہ کیسے پاکستانی معاشرے میں خواتین کی empowerment کو یقینی بنایا جائے۔ Unfortunately, like many other issues, this issue too has been hijacked by pro-west modernists and Islamists. اسلام کے دائرے میں لاکر restrictions عائد کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ modernists جن کو بعض اوقات pro-west label بھی کیا جاتا ہے، وہ اپنے الگ parameters لاکر ہمیں نئی directions set کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات confusion بڑھتی جاتی ہے۔

کوٹا بڑھانے سے کچھ help تو ہوگی لیکن میں شرمین قمر سے totally agree کرتا ہوں کہ جب تک آپ سوچ نہ بدلیں، رویے نہ بدلیں، کوٹا بڑھانے سے یہ چیزیں change نہیں ہوں گی۔ رویہ اور سوچ بدلنے کے لیے جو میرے پاس ایک practical recommendation ہے، میں سمجھتا ہوں کہ socio-cultural and religious hurdles are the most serious and significant impediments in the way of women empowerment. حقوق نہیں دیتے، اس کی legitimacy وہ دو grounds پر کرتے ہیں۔ ایک socio-cultural reasons کی بنیاد پر اور دوسری religious grounds کی بنیاد پر۔ ان لوگوں کی mentality change کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ With due regard میں religious issue پر focus کرنا چاہوں گا۔ مجھے نہیں پتا، I am not an authority on it لیکن مجھے صرف confusion کا پتا ہے، وہ confusion یہ ہے کہ خدانخواستہ یا تو کچھ اسلامی clauses ایسی ہیں کہ وہ inherently شاید عورت کو اس کا due right نہیں دیتیں یا پھر ہم نے انکی صحیح dynamic interpretation نہیں کی changing circumstances کے ساتھ کیسے چلا جائے۔ میں authority نہیں ہوں، میں صرف اس کی دو possible interpretations بتا رہا ہوں۔

میں اس ایوان کو recommendation دینا چاہوں گا اور حکومت کو بھی کہ جو لوگ خواتین کو حقوق نہیں دیتے، ان کے لیے main religious reasons ہوتی ہیں یا socio-cultural factors ہوتے ہیں۔ ہمارا target audience وہ ہونا چاہیے۔ یہاں ہم نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں ہم سب اس سے agree کرتے ہیں لیکن point یہ ہے کہ ہم authority نہیں ہیں۔ Authority وہ ہیں جو rural areas میں بیٹھتے ہیں، جو خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ ہماری یا ٹی وی ٹاک شوز کی باتیں ان تک پہنچ نہیں پاتیں۔ میری یہ suggestion ہے کہ ایسی

women research کو promote کیا جائے جو modern issues پر غور کرے، political Islam سے ہٹ کر جو rights کے حوالے سے اسلامی تعلیمات ہیں، ان پر clear-cut and comprehensive guidelines دے جیسے ایک modern society میں job کرتے ہوئے ایک خاتون کے لیے کیا guidelines ہونی چاہئیں۔ اسی طرح سے ایسے دوسرے serious issues ہیں جو آج کے جدید دور میں اٹھائے گئے ہیں لیکن ہم نے Islamic teachings کی dynamic interpretations نہیں کی جس کی وجہ سے ہم اپنے religion کو according to the changing circumstances of the time, update نہیں کرسکے۔ میری یہ suggestion ہے کہ ان serious issues پر جو modernism سے متعلق ہیں، Islamic injunctions میں جن کے بارے میں ambiguity ہے، غور کرنے کے لیے ایک research promote کی جائے۔ ان پر ایک clear-cut, liberal and progressive opinion develop کیا جائے تاکہ اس سے at least وہ لوگ تو convince ہوں جو ان reasons کی وجہ سے خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم راجیش کمار صاحب۔

جناب راجیش کمار مہاراج: شکریہ سپیکر صاحبہ۔ حقوق نسواں کے بارے میں سب نے بات کی، میں بھی کچھ باتیں share کرنا چاہوں گا۔ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو تین اقسام کی societies exist کرتی ہیں۔

One is paternal which means male dominant society. The second is maternal which means women dominant society and the third one, cognitive which means both have the powers.

ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے وہ paternal ہے یعنی male dominant society ہے۔ اس میں male کو یہ authority حاصل ہے کہ decision making اور economic problems کو solve کرے۔ Women is considered as a house wife. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہر ایک کا equal right ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے جو deprived areas ہیں، دیہی علاقے ہیں، میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، سندھ کی بات کروں گا، سندھ میں کاروکاری (honour killing) کی وجہ سے جتنی عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس میں ایک بھائی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بہن پر ایک blame لگا کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے اور ایک میاں اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ honour killing سندھ کے علاقوں میں بہت بڑھ گئی ہے جبکہ کچھ دوسرے علاقوں میں بھی بڑھی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ادارے میں خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے، عدلیہ، میڈیا اور دوسرے اداروں میں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں ان کے حقوق سے deprive کیا جاتا ہے۔ جہاں تک خواتین کی تعلیم کی بات ہے، سندھ میں لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے سکول نہیں بھیجتے۔ پرانے دور کا trend چل رہا ہے، ایک وقت تھا جب کسی ملک میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ میرے ایک fellow parliamentarian نے بات کی کہ اس میں religious factor شامل ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی religion میں خواتین کے حقوق deprive کیے جاتے ہوں۔ اسلام خواتین کو equal rights دینے کی بات کرتا ہے۔ ہندوازم میں عورت کو سینا کا مان دیا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ تو ہماری ایک خود ساختہ روش ہے جس کے تحت ہم معاشرے میں عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتے۔ ہمارے

معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر میاں اپنی بیوی کی کوئی بات مانتا ہے تو اس کے friends کہتے ہیں کہ تو تو بیوی کا غلام بن گیا ہے اور اس کے کہنے پر چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک trend بن گیا ہے، ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنا پڑے گی۔ ہمیں عورتوں کو equal rights دینے پڑیں گے اور ان کے rights کی violation سے گریز کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی مدنظر رکھنی چاہیے کہ Universal Declaration on Human Rights (UDHR) میں بھی عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے اور انہیں برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ شکر یہ۔

Madam Deputy Speaker: I think we have discussed this quite enough. If anyone has something new to add? Miss Sitwat Waqar *sahiba*.

Miss Sitwat Waqar: Thank you honourable Speaker. First of all, I would like to say that I am very happy that this resolution has been put forward in the House. In the first session, many media persons witnessed our session. One of the media person asked me a question that since you are a women, how are you contributing to women rights on this platform. I am ashamed that it is the third session and now our party has put forward a resolution in this regard. Nevertheless, it is never too late.

Mr. Rafiullah Kakar has already mentioned about religion, I believe Rajesh Kumar also touched upon it, Islam is the most women-empowering religion in the world. There is no other religion in the world which highlights the women rights in the same manner as Islam. Islam talks about making it obligatory on the women to attain education as well.

Speaker *sahiba* as well as Sharmeen, both mentioned equity and equality. I believe there is a difference between equity and equality because females have a dual responsibility. They have the responsibility of being a mother, a daughter, a student as well as many other things. Females have dual responsibility when they have to face the issue of child bearing, they need maternity leave if they have jobs anywhere. On the other hand, all men have to do is to go out, earn and come home and demand food or whatever they need. However, women have the dual responsibilities. Obviously, they are not equal and they cannot be treated equal in this society. A women cannot have a very laborious job where she has to push things which mostly men should do.

However, I am going to make it short. Reyyan *sahib* mentioned about the Domestic Violence Act which was enacted in 2006. I would like to tell about it. I had a maid who had six daughters. She was a working woman in the family. Her husband was a druggie, he used to take drugs. He used to steal her money. Wherever she locked her money, he used to steal it from there and buy drugs, take drugs and stay in the bathroom all day long. Every week, he would beat her up, sometimes, with hard objects like chairs and once, also with the knife. We handed him many times, over to the Islamabad Police. Every time, the Police released him on the grounds that it is a domestic matter, it is a family matter and it is an internal issue between a husband and his wife. They would say that we cannot take any action on this matter and we can't do anything. So, I would like to ask the Government that what is the effectiveness of the Domestic Violence Bill which it passed in 2006? Many times, we tried to talk to the maid and we told her that you can get a divorce if he is not even helping you, if he is not even supporting you financially. She used to answer that the men give us shelter and we cannot really survive in the society without the shelter of a man.

That is what all the women in the rural areas have to bear so much of domestic violence because of this issue.

I have a solution for this. The NGOs working on this issue and the Government should incorporate in their policies that there are some programs through which the men may also be mobilized. They should be told through the awareness programs that if you educate the females of your family, if you keep them happy and satisfied then they can contribute better to the society. You should not apply use of force. If you make them happy, they can also contribute equally to the economy as well. There are other things the government can do; for example, females who want to earn and yet they have other issues such as kids and other responsibilities, the government should come up with some part-time job opportunities for females. They should be given maternity leave and other such facilities so that these women can also work. Nobody is saying that men and women are equal. They are not equal, they are equitable. That is what I want to say. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Mr. Yasir Abbas *sahib*, you have one minute, please.

Mr. Yasir Abbas: Very quickly, I just want to say a few things.

جس طرح رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے وضاحت کی اور ابھی میڈم سطوت وقار نے کہ ہمارے ہاں ایک سوچ کا فرق پایا جاتا ہے۔ مذہبی سوچ الگ ہے اور liberal سوچ الگ ہے۔ ان کے بیچ misconceptions کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ پس رہا ہے۔

As far as quota is concerned, I would say either government should ensure a quota or the government should ensure a level playing field for both male and female.

مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہاں ساتھ کے ساتھ ارکان میرٹ پر females آجائیں۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں اگر ساتھ کے ساتھ ارکان males آجائیں۔

The word "quota" actually emboldens the version that females are deprived here. I think rather quota, we should focus on the concept of providing equal and level playing field.

ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے ہر جگہ کام کیا ہے۔ پاکستان کی مثال لے لیں، فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، آپ world level پر دیکھ لیں، ہیلری کلنٹن اور بے شمار دوسری خواتین ہیں۔

میں conclude کروں گا کہ سیاست ہو یا کوئی بھی دوسرا شعبہ، کوئی بھی اپنی ماں بہن پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اپنی بیٹی کو opportunity سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا

ترقی کرے، آگے جائے لیکن بیٹی نہ جائے۔ Mr. Rafiullah - The problem is with the mindset and about that

Kakar rightly pointed out. صرف سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کوٹا بڑھانے سے مسئلہ حل

ہوگا۔ کوٹے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ آج ہم پارلیمنٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کوٹے کے

ذریعے وہی لوگ آرہے ہیں جو parliamentarians کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں۔

Quota is not a solution. Providing an equal and level playing field for both male and female, should be the priority of the government. Thank you.

محترمہ مومنہ نعیم: میڈم! میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ یاسر صاحب نے ابھی جو بات کی کوٹا کے خاتمے اور میرٹ کے فروغ کے حوالے سے، میرے خیال میں انہوں نے کافی اچھی باتیں کیں۔ مجھے اس کا قطعی خیال نہیں آیا۔ سفارشات میں اس حوالے سے اضافے پر میں ان کی شکرگزار ہوں۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Junaid Ashraf sahib, would you like to say something?

You have one minute.

جناب جنید اشرف: یہاں بار بار حکومت اور NGOs کی بات بورہی ہے، میرے خیال میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پہلے family institution کو strong کیا جائے۔ حکومت اور NGOs گھر گھر جاکر نہیں بتائیں گی کہ یہ کام کریں اور وہ نہ کریں۔ اس کے لیے میڈیا کا role بہت اہم ہے کہ وہ families کو ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے mobilize کرے۔ دیہی علاقوں کو خاص طور پر focus کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی values strong ہوں گی تو خود بخود یہ issues resolve ہوجائیں گے۔

دوسری بات یہاں double burden کے حوالے سے کی گئی۔ اس کا solution یہ ہے کہ مرد اور خاتون equal responsibility لیں گھر کی بھی اور باہر کی بھی۔ یہ سب کچھ family institution سے ہی آئے گا۔ شکریہ۔
محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ شفقت علی صاحب۔

جناب شفقت علی: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ اس resolution کے حوالے سے میں چند ایک points کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اگر عورت کو حقوق دیے تو اسلام نے دیے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، اس وقت سب سے پہلے عورتوں کو آقا ﷺ نے جنگ میں شمولیت کی اجازت دی۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی تو اس میں کھدائی کے دوران یا مشقت کے کام میں عورتوں کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوٹا مختص کر کے عورت اپنے آپ کو بوجہ تلے کیوں لانا چاہتی ہے؟ عورت کو حقوق، اسلامی تعلیمات کے مطابق مانگنے چاہئیں۔ جیسا کہ مومنہ نعیم نے کہا اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے مطابق، عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورتوں پر مردوں کو برتری حاصل ہے، وہ اسی لیے کہ ان کو زندگی کی آسائش کے حقوق دیے جائیں، ان پر ظلم و تشدد نہ کیا جائے، ان پر بوجہ نہ ڈالا جائے۔ ان کو ایسے کاموں میں نہ ڈالا جائے جو وہ نہیں کرسکتیں۔ دو غزوات کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد یہ جس طرح کے مطالبے کیے جاتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں۔

یہاں بات ہوئی کہ عورت کو شادی کے بعد torture کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دوسری وجہ لڑکی کی کم عمری کی شادی ہے۔ جب آپ کم عمری میں لڑکی کی شادی کردیتے ہیں تو اسے اپنی سمجھ بوجہ نہیں ہوتی، وہ گھر اور خاندان کے معاملات کیسے نمٹائے گی؟ اس کے نتیجے میں الجھنیں اور مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ لہذا، ان معاملات پر control کرنے کی ضرورت ہے نا کہ صرف بل پاس کرنے، reforms کرنے اور کانفرنسیں منعقد کروانے سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ ان سفارشات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔

ایک اور اہم بات، اسمبلیوں میں جو بل پاس ہوتے ہیں یا جو بھی resolutions لائی جاتی ہیں، ان میں سے mostly جاگیردار ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ زمین اور جائیداد کی

مالک ہوتی ہیں اور وہ جائیداد ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ ان کی زندگی ویسے ہی ختم ہوجاتی ہے یا پھر ان کی قرآن سے شادی کردی جاتی ہے۔ اس طرح کی فضول رسومات کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ صرف بل پاس کیے گئے، ان کا نفاذ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جو بل پاس کرتے ہیں وہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر عمل درآمد کون کرے گا۔

ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا

محترمہ ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ محترم لیڈر آف دی اپوزیشن۔

Mr. Kashif Ali (Leader of the Opposition): Thank you Madam Speaker. First of all, I am extremely thankful to Mr. Reyyan and Miss Momna for bringing up this resolution. I think if we emphasize that terrorism is the important problem of this country, if we emphasize that energy crisis is one of the serious issues of this country, if we say that collapsing economy is the urgent problem, then we must also say that the domestic violence is equally important and the most serious problem in this country.

Madam Speaker, it is an irony that we are Muslims and the declared state religion of this country is Islam. As far my interpretation of Islam is concerned, how much tolerant Islam is towards the women and their rights, no other religion offers such rights. If you look at the history, what has been done to the sister of Jinnah by the worst ever dictator of this country, what was done with the women in terms of rights and all that. Misogynistic attitude is very much embedded in our laws and legal system.

اس ملک کا ایک بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ان برائیوں کو rectify کرنے کے لیے سب سے بڑے کام ایک dictator نے کیے۔

I would mention his name, we must appreciate that General Musharraf did all this work to improve the rights and status of the women. All this legislation was done by the previous government of PPP.

قوانین موجود ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے attitude کا ہے۔ رویے قانون کے ذریعے تبدیل نہیں کیے جاتے۔

The attitude changes through a slow, gradual, smooth process of societal engineering.

آپ معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ لوگ خواتین کو برابر حقوق دینے کی باتیں تو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواتین کو وزارتیں دو، مجھے افسوس اس بات پر بھی ہو رہا ہے کہ دو دن پہلے تک سابقہ پرائم منسٹر کو اس لیے ہٹایا جا رہا تھا کہ وہ ایک خاتون تھیں۔ یہ ایک irony ہے، جب تک اس طرح کا attitude تبدیل نہیں ہوگا، معاملات درست نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں نے یہاں comments pass کیے، یہ وہی لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے کہ بھئی، یہ تو ایک لڑکی ہے، یہ معاملات کو نہیں چلا سکتی۔ آج وہ باتیں کر رہے ہیں کہ عورتوں کو برابر کے حقوق اور status ملنا چاہیے۔ دیکھیں، دہرا معیار ختم کریں اور اپنا attitude change کریں۔ جب تک آپ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

بلیو پارٹی کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارکان غیر حاضر ہوتے ہیں۔ میں پھر محترم پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ concerned ministry inform کرے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ resolution تو دے رہے ہیں، solution نہیں دے رہے۔ بھئی، میں آپ کو بتانا چاہتا

ہوں کہ پچھلے سیشن میں domestic violence سے متعلق، میں ایک بل لایا تھا۔ گھریلو تشدد کو curb out کرنا ایک پالیسی ہے۔ اگر آپ کو پتا نہیں تو آپ ایک informed discussion کو تو put forward کریں۔ خواہ مخواہ uninformed comments pass نہ کریں۔

Thirdly, I would request everyone sitting on this platform to take oath in their hearts, to take oath publicly that at least on this very platform, there will be no gender discrimination. Whether it is the Blue Party or the Green Party, the gender discrimination is neither allowed nor will be tolerated. If anyone found, I think he will lose the moral legitimacy and he should resign.

اگر میری پارٹی میں جنسی امتیاز ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا استعفیٰ دینے والا اور اگر بلیو پارٹی میں ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو کھڑا ہوگا اور تنقید کرے گا۔

I look forward for the change of attitude. Insha-Allah, in this way these issues would be solved in Pakistan gradually. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Honourable Prime Minister *sahib*.

رانا فیصل حیات (یوتھ پرائم منسٹر): شکریہ میڈم سپیکر۔ کافی اچھی discussion ہوئی ہے۔ I would once again thank Mr. Reyyan Niaz and Miss Momna Naeem for the resolution. bills میں ترامیم کے حوالے سے تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسی حکومت ملے جو اسمبلی میں women empowerment کے لیے بل نہ لے کر آئی ہو۔ اس topic پر میں نے کافی research کی ہے۔ پچھلی حکومت نے بھی اور کوئی کام نہ کیا ہو لیکن انہوں نے women empowerment کے لیے قانون سازی ضرور کی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دور حکومت کے آخری دنوں میں ایک anti-harassment bill بھی منظور کیا گیا تھا۔

ہم جب اتنی قانون سازی کر رہے ہیں، media awareness ہے، اس کے علاوہ دوسرے forums کے ذریعے awareness ہے، تعلیم کے ذریعے awareness ہے، ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کو تب حقوق دیے جب مغرب میں ان کے حقوق کے متعلق سوچا بھی نہیں جاتا تھا، پھر بھی 2013 میں ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ ان بدترین مثالوں میں سے کیوں ہے کہ یہاں honour killing ہو رہی ہے، یہاں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جا رہی ہے، یہاں تیزاب پھینکا جا رہا ہے اور یہاں ایسے عناصر موجود ہیں جو اسلام کی misinterpretation کرتے ہیں۔

جناب سپیکر! شرح تعلیم کی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ برٹریڈ رسل کی responsibility sharing کی بات بھی کی گئی۔ ان سب باتوں کا حل ایک ہی ہے، ہماری سوچ۔ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پورے برصغیر کا ہے، انڈیا کا ہے اور بھی ممالک ہیں۔ برصغیر میں ہر حکومت کوشش کر رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دہلی میں gang rape کا ایک واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور بھیانک تھا جسے سن کر اور پڑھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس طرح کے درندے بھی دنیا میں موجود ہیں۔

جناب سپیکر! بہت زیادہ awareness, public examples اور عورتوں کی struggle کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہماری دماغی سوچ ہے جسے ہمیں بدلنا ہوگا۔ اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جتنی صلاحیت ایک مرد میں ہے، اتنی ہی صلاحیت ایک عورت میں ہے۔ وہ دونوں level playing field پر کھڑے ہوں تو اگر پچاس مرد جیتیں گے تو پچاس عورتیں بھی جیتیں گی۔ مجھے اس بات پر کامل ایمان ہے۔ پہلے کا تو پتا نہیں، میرے اس ایوان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جہاں gender discrimination کی جائے گی، سب سے پہلی آواز، خدا کو حاضر ناظر جان کر، قائد اعظم کی تصویر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری ہوگی۔

میری پارٹی کے کچھ issues raise کیے گئے ہیں، انہیں میں پارٹی میٹنگ میں address کروں گا۔ That is all your honour. بہت شکریہ۔

Mr. Rafiullah Kakar: Point of order, Madam Speaker.

Madam Deputy Speaker: The Prime Minister has concluded for your party.

Mr. Rafiullah Kakar: There was a factual error, you can say.

Madam Deputy Speaker: Go ahead.

Mr. Rafiullah Kakar: The honourable Leader of the Opposition gave a sweeping statement without substantiating it with any evidence. I think it was just throwing in the darkness.

انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک کی primary reason یہ تھی کہ پرائم منسٹر women تھیں۔ I think it is absolutely wrong. اس بات کی ان کے پاس کوئی evidence نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے ان کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتا ہوں۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Now, I put the resolution to the House.

(The motion was carried)

Madam Deputy Speaker: Now, we move on to the next item of our agenda. Mohtarma Shahana Afsar *sahiba* would like to move a resolution.

Ms. Shahan Afsar: Thank you Madam Speaker. I move the following resolution:

"This House is of the opinion that the never ending family feuds in a number of rural areas of Pakistan continue to pose life threats to families. The targeted ones are mainly the male members of family and attack on them makes the whole family victim to such acts. Immediate measures need to be taken to ensure safety of people and to create tolerance among rivals. Promotion of education and initiating union councils in villages will prove effective in eradicating this evil from communities."

میڈم سپیکر! پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کی ایک جو بہت لمبی لسٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ خاندانی دشمنی کا بھی ہے۔ ان دشمنیوں کا نام سن کر ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مسائل یا وجوہات ہوتی ہیں جن کے باعث یہ دشمنیاں وجود میں آتی ہیں لیکن گہرائی میں جاکر دیکھا

جائے تو بہت چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو آگے جا کر بہت بڑی خاندانی دشمنی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کوئی لڑائی کسی شادی پر ہوتی ہے، کوئی لڑائی کسی زمین کے ٹکڑے پر ہوتی ہے، کسی نے دوسرے شخص کا ٹیوب ویل استعمال کر لیا، کسی کا پانی استعمال کر لیا یا کسی سے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیا، اس کو دیکھ کر دو لوگوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ خاندانی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ اگر دو families کے heads نے آپس میں کسی بات پر لڑائی کی ہے تو بات صرف ان دو تک محدود نہیں رہتی بلکہ families میں آ جاتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، مجھے quote کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکثر ایک شخص کا بیٹا جو باہر رہتا ہے، وہ یہاں آتا ہے تو اسے اس لڑائی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نوجوان لڑکے کا مسئلہ ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنی فیملی کا sole earner ہے۔ اس کے بعد family کی responsibility اور بچوں کی پرورش ان کے دادا، دادی یا پھر نانا، نانی کے ذمہ ہو جاتی ہے جو elderly life میں وہ سب چیزیں handle نہیں کر سکتے۔ ایک فیملی کے earner کو مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بوڑھے ماں باپ کو family کو support کرنا پڑتا ہے۔

میں اس issue کی زیادہ detail میں نہیں جاؤں گی، یہ بالکل واضح ہے۔ میں اس کے solutions کی طرف آؤں گی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ صرف کسی ایک measure کے ذریعے آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے لوگوں میں tolerance پیدا کرنی ہے۔ آپ نے پولیس کو زیادہ involve کرنا ہے۔ لوگوں میں awareness لانی ہے۔ یونین کونسلیں بنانی ہیں۔ جب وہاں ناظم موجود ہوں گے، جو وہاں کے لوگوں نے ہی منتخب کیے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ کس خاندان کا کس خاندان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ کون سی برادری کون سی برادری کے خلاف ہے۔ کس کی کس سے لڑائی ہو چکی ہے۔ اس طرح جب کبھی لڑائی ہوگی تو مجرموں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ دو بہت effective اقدامات جو ان rivalries کو ختم کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں، ان میں ایک wide spread education ہے جبکہ دوسری awareness ہے۔

تعلیم پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہو چکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے درمیان دشمنی ہے اور اس میں سے ایک خاندان نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دوسری فیملی کے لوگ بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ گوکہ اب یہ چیز کافی کم ہو چکی ہے لیکن اگر میں اپنی برادری کی بات کروں تو بہت سے لوگوں کو مارا گیا ہے لیکن ان کے مجرموں کو ابھی تک پکڑا نہیں جاسکا۔

تعلیم کے علاوہ جو دوسری چیز effective ہو سکتی ہے، Communications کے students کو شاید پتا ہو، development support communication کے نام سے ایک tool ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ چیز practice ہو چکی ہے اور یہ بہت effective ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں یہ طریقہ بہت سے معاملات کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے خود اس tool کو ایک چھوٹے level پر practice کر کے دیکھا ہے اور یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ یہ effective ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ campaign launch کرتے ہیں۔ آپ میڈیا کے ذریعے کریں یا پھر door to door campaigns کریں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ

تعلیم کو widespread کرنے کے لیے میڈیا پر بہت campaigns چلیں اور ان کا فائدہ ہوا ہے۔ جس طرح ہم پچھلے agenda item پر بات کر رہے تھے کہ ہمارا اہم مسئلہ لوگوں کے attitude تبدیل کرنے کا ہے۔ Women empowerment کی بات ہو، sects کی tolerance بڑھانے کی بات ہو یا آپس میں ایک دوسرے کو tolerate کرنے کی بات ہو یا اس طرح کی rivalries ختم کرنے کی بات ہو، آپ کو لوگوں کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ یہ نقصانات ہمیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو رہے بلکہ انہی کو ہو رہے ہیں۔ آپ door to door campaigns launch کریں۔ میڈیا کے ذریعے campaigns launch کریں۔ ان لوگوں کو awareness دیں۔ وہاں پولیس کی involvement زیادہ کریں۔ یونین کونسلز بنائیں اور wide spread education کریں تو اس چیز کو counter کیا جاسکتا ہے۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترمہ! آپ کی resolution سے متعلق میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے یہاں mention کیا ہوا ہے کہ:

"immediate measures needed to be taken to ensure safety of the people"

میرے خیال میں آپ نے mention کیا ہے کہ پولیس وغیرہ کے ذریعے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ:

"to create tolerance among rivals."

How do you plan on doing that?

محترمہ شاہانہ افسر: جو rivalries ہو چکی ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں نے بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو awareness دیں گے کہ ایک بندہ اگر کسی دوسرے خاندان کے بندے کو مار رہا ہے تو یہ quite obvious ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بیٹے کو مارا ہے تو وہ بھی کل کو آپ کے بیٹے کو مارے گا۔ اس طرح کی rivalries ہو چکی ہیں۔ لوگوں کو awareness دینے سے، ان کی سوچ، perception اور attitude change کرنے سے، ان کو بہت زیادہ سمجھانے سے اور education کو عام کرنے سے، ان میں tolerance بڑھائی جاسکتی ہے۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ محترم انعام اللہ مروت صاحب۔

Mr. Inamullah Marwat: Thank you Madam Speaker. First of all, I completely endorse this resolution. The issue highlighted is a very burning one. We always get such stories that the conflicts going on within the family last for very long time. No cause has been mentioned for this problem as to what is the cause behind this problem.

In my opinion, this is something because of poor judicial system. In our society, courts are not so much strong, so, people try to solve their problems themselves. That is why they just go for these conflicts. The solutions that have been given here, promotion of education and initiation of union councils, they generally can cater to this problem but I think the specific and the more direct solution to this problem can only be through strong judicial system. That is my point. Thank you.

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم یاسر عباس صاحب۔

Mr. Yasir Abbas: Thank you Madam Deputy Speaker. Though this resolution is a bit vague, however, it is one of the problems of Pakistani society.

دوسری بات یہ ہے کہ کسی فیملی ممبر کو یا پھر کسی entire فیملی کو کوئی immunity حاصل نہیں ہوتی ہے اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد کسی clash میں چلا جائے۔ اس کے حل کے ضمن میں محترمہ شہبانہ افسر نے کہا کہ awareness کی ضرورت ہے۔ Awareness is not a computer software which can be uploaded in a person. اسی طرح تعلیم بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ فوراً استعمال کر لیں۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو feudal lords ہیں یا پھر feudal families سے تعلق رکھتے ہیں، وہ educated لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی practices اور ان کا عمل ایک جاہل انسان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ مروت نے بالکل ٹھیک point out کیا کہ یہ مسائل ہمارے judicial system کے failure کی وجہ سے ہیں۔ یہ پولیس کا failure بھی ہو سکتا ہے اور at the same time یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مجموعی stature اس طرح develop ہوا ہے کہ یہاں rule of law کا کوئی concept نہیں ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔

I believe solution to this problem is democracy and in fact it is a long term solution.

جمہوریت جوں جوں مستحکم ہوگی تو یہ آپ کے نچلے level تک جائے گی۔ نچلی سطح تک کیسے جائے گی؟ آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جس میں ہر ادارہ شامل ہے چاہے وہ عدلیہ ہو، پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ۔ کسی بھی خاندان کے اندر اگر کوئی بھی جھگڑا یا تنازع ہوتا ہے تو اس کا focal point, ego issue ہوتا ہے۔ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت کا ایک عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے خاندان یا اپنی ذات پر بہت فخر کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی democracy اور education سے ختم ہو جائے گی۔

Through education, we can create awareness but education is not the only solution. We have to give democracy a chance. As emerging youth parliamentarians and politicians of future, we should believe that through democracy we can overcome the issues of feudal tussles, religious extremism, or any other issue which is crippling Pakistan. So, I believe the entire solution to every problem, not only this but every problem, lies in the strengthening of democracy. The democratic values we are learning here today, we have to implement them in our surroundings. Whether we emerge in any position through CSS, many of our parliamentarians are aspiring to be the civil service officers in future, some are transforming into politicians, if this process continues on, then tomorrow our CSP Officers can be posted in that feudal area or they can represent that area as politician. In this way, these people in view of the experience gained over here, can take a line of action.

ہم نے جن solutions کی بات اس ایوان میں کی، وہ انہیں عملی طور پر وہاں کر کے دکھا سکتے ہیں۔

So what I believe is let the system a chance, let the parliamentarians learn the basics of democracy and the basics of justice and rule of law and let them make it proliferate in the society. Thank you.

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عمر نعیم صاحب۔

جناب عمر نعیم: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ میں مس شہبانہ صاحبہ اور جناب یاسر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس problem کو highlight کیا اور اس کے solutions پر بات کی۔ یاسر صاحب نے تو ہمیں long term solution بھی دیا کہ ہم law and order کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر اسے implement بھی کریں۔ میں ان کی solutions کو appreciate کرتا ہوں۔

میرے خیال میں ہمارے ملک کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دو گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ پنچایت سے مدد لیتے ہیں۔ اس علاقے کا سردار ان معاملات کے فیصلے کرتا ہے۔ اس میں اس کا اپنا interest بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلاً وہ ایسا فیصلہ دیتا ہے جس سے دونوں گروپ اس سردار یا جاگیردار سے ناراض بھی نہ ہوں اور اس کا اپنا مفاد بھی قائم رہے۔ یہاں جو solutions یاسر نے یا مس شاہانہ نے پیش کیے، میں ان سے agree کرتا ہوں یعنی جمہوریت، تعلیم اور law and order کے ذریعے ہم اس جاگیردارانہ اور مفاد پرستی کے کلچر کو ختم کرسکتے ہیں۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم ریان نیاز صاحب۔

جناب ریان نیاز: شکریہ میڈم سپیکر۔ I completely endorse this resolution. میں نے جو باتیں کرنی تھی، یاسر صاحب اور شاہانہ نے already highlight کردی ہیں۔ ہمیں grass root level پر reforms چاہئیں۔ ہم اس کے لیے basic democratic units introduce کرواسکتے ہیں تاکہ بنیادی سطح پر مسائل کا حل نکال سکیں۔ اس چیز کو implement کرنے کے لیے ہمیں law and order situation کی بہتری اور judicial reforms بھی لانی چاہئیں۔ ہم judicial reforms کے ذریعے ہی ان لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں جنہوں نے غلطی کی اور ایک example set کرسکتے ہیں کہ آئندہ لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب کچھ solutions ہمیں مل جائیں گے بے شک وہ عبرتناک ہی ہوں، تو اس کے بعد ہم ایک پلیٹ فارم پر چل پڑیں گے تو یہ achieve کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم رفیع اللہ کاکڑ صاحب۔

Mr. Rafiullah Kakar: Thank you Madam Speaker. I totally endorse this resolution.

میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید یہ resolution اسی علاقے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میری تحصیل میں اس وقت چہ بڑی قبائلی دشمنیاں چل رہی ہیں، فیملی دشمنیاں بھی ہیں بلکہ قبائلی دشمنیاں جس میں بڑے بڑے، ہزاروں کے تعداد میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس میں سے ایک دشمنی جس کے ابھی تئیس چوبیس سال ہوئے ہیں، اس میں چار سو سے زیادہ لوگ مرچکے ہیں۔ اس سے ہٹ کر پانچ بڑے قبائل کے درمیان دوسری دشمنیاں جاری ہیں۔ وہ ایسے قبائل ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک گاؤں کے بعد دوسرے کا گاؤں ہے، strategic links ہیں، کوئٹہ شہر جاتے ہوئے یہ ایک دوسرے کے گاؤں کو cross نہیں کرسکتے۔ ان کو ایک لمبے راستے سے آنا پڑتا ہے، ایمرجنسی اور medical situation میں شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کر پھر ان میں ہم جیسے non-combatants جو neutral ہوتے ہیں، جن کی کسی کے ساتھ rivalry نہیں ہوتی، ان کو بھی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعض اوقات انہی areas میں سے گزرتے ہوئے آپ کو مختلف قسم کے threats کا سامنا ہوتا ہے۔

اس حوالے سے جہاں تک solutions کی بات ہوئی، میں اس سے agree کرتا ہوں، judicial system اور law and order enforcement agencies اگر strong and competent نہ ہوں تو ان واقعات کو روکا نہیں جاسکتا۔ ایک بات جو میں یہاں particularly add کرنا چاہوں گا، اکثر یہاں بات کی جاتی ہے کہ پنچایت سسٹم یا کچھ علاقوں میں جرگہ سسٹم میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ میں totally agree کرتا ہوں کہ ان میں کافی ساری خرابیاں

موجود ہیں but I would warn against eliminating this system altogether. میں سمجھتا ہوں کہ پنچایت یا جرگہ سسٹم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ These are the products of centuries. These have been evolved over a span of centuries. ان کی مقامی طور پر بڑی strength ہے۔ آپ ان میں reforms لے کر آئیں، ان کی غلط چیزوں کو control کر لیں، meanwhile آپ judicial system کو promote کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں یقین ہوگا کہ وہاں judicial system اتنا strong ہو گیا ہے تو پھر یہ risk لیا جاسکتا ہے کہ اس پنچایتی یا جرگہ سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔

میں نے اپنے علاقے کی مثال دی، میرے علاقے میں آج تک judicial یا legal process کے ذریعے کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا لیکن جرگے کے ذریعے تیس سے زیادہ قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں اور combatant tribes کے درمیان تصفیے بھی کرائیے گئے ہیں۔ میری صرف یہ suggestion ہے کہ انہیں altogether ختم نہ کیا جائے بلکہ ان میں reforms لائیں اور اس process کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔
محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم عبدالصمد صاحب۔

Mr. Abdul Samad: Thank you Madam Speaker. I would highlight the same point that Rafiullah Kakar raised that the jirga system should not be disbanded altogether.

Since my father is one of the member of the jirga in the community, so I have been the part of the jirga system as well. I have been attending its meeting. I believe that it is one of the strongest systems existing for the immediate justice in the local communities. I don't think that you should abolish that system altogether and you would achieve something good.

جہاں تک ونی میں لڑکیوں کو دینے کا معاملہ ہے، وہ ایک بہت بری چیز ہے۔ ہمارے پشاور کے علاقے کے جرگہ سے اس چیز کو بالکل abolish کر دیا گیا ہے۔ جرگہ سسٹم کے جو drawbacks ہیں جس طرح رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے ذکر کیا، ان کو آپ ختم کریں اور reforms لے کر آئیں۔ میرے خیال میں immediate justice کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی عدالتیں اور judicial system اس چیز کو cover نہیں کرتے۔ اگر ایک گاؤں میں کسی بندے کو immediate justice چاہیے ہو تو وہ کسی وکیل کو afford نہیں کرسکتا، وہ جرگہ میں جاتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہوجاتا ہے۔ یہ ایک اچھا process ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے develop کریں تاکہ اسے abolish کریں۔ شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم لیڈر آف اپوزیشن۔

Mr. Kashif Ali (Leader of the Opposition): Madam Speaker, I think what is very alarming in this resolution is that this problem is not confined to the rural areas only. If you look at the urban cities like Karachi in the recent cases like the murder of the young Shahzeb Khan, they show that this thing is proliferating in the urban centers as well. I think the main reason is that all the feudal are themselves sitting in the assemblies. Ironically, no steps have been taken in Pakistan to curb out the power of these big landlords, big feudal or the big feudal families.

Essentially, I agree with all the proposed solutions that at the end of the day, it is all about making the rule of law effective, making the judicial reforms and all that. So, I endorse this resolution. Thanks.

Madam Deputy Speaker: Honourable Prime Minister sahib.

رانا فیصل حیات (یوتہ پرائم منسٹر): شکر یہ میڈم سپیکر۔ میں اس resolution کو اس کی تہہ تک کافی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک دیہاتی آدمی ہوں۔ میں rural politics کو، rural issues کو اور لوگوں کے درمیان پائی جانے والی grudges کو کافی اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور witness بھی کرچکا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسائل اور لڑائیاں خاندانوں کی سطح تک پہنچ جاتی ہیں لیکن بیشتر کی وجوہات بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی بات سے مسئلہ شروع ہوتا ہے اور بہت آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے محترمہ شاہانہ افسر صاحبہ نے بات کی ہے کہ پانی چوری اور اس طرح کے petty issues پر بات شروع ہوتی ہے اور بہت آگے چلی جاتی ہے۔

لیڈر آف دی اپوزیشن نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مسائل اب rural areas تک confine نہیں ہیں بلکہ urban areas میں بھی پائے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں مسئلے کا حل صرف law کی implementation میں نہیں ہے۔ ہمارے قوانین میں، آئین میں ایسے loopholes ہیں جو ان لوگوں کو way out دیتے ہیں جو انہیں abide نہیں کرنا چاہتے۔

اس کے solution میں سب سے پہلے tolerance آتی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے۔ صرف اسی مسئلے کی نہیں بلکہ یہ اور بھی کئی مسائل کی وجہ بنتی ہے۔ Tolerance بہت ضروری ہے۔ تعلیم کو بھی مسئلے کا حل کہا جاسکتا ہے لیکن پھر ہمارے سامنے اس طرح کی مثالیں آجاتی ہیں کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جب ایسے کام کرتے ہیں تو پھر وہ تعلیم یافتہ لگتے نہیں۔

کچھ چیزیں particularly rural areas کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ سیاستدانوں پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے۔ They should be liable for the law and order situation in their area. They should coordinate with the police. دیہی علاقوں میں جو ایک پولیس اور تھانہ کلچر پایا جاتا ہے، آپ اور یہ ایوان اس سے well aware ہوں گے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے counter کریں۔

اس کے علاوہ judicial system بہت ضروری ہے۔ بہت سے cases میں نے، آپ نے اور اس ایوان کے معزز ارکان نے اخباروں اور ٹی وی کے ذریعے پڑھے اور دیکھے ہوں گے، خودکش حملوں میں ملوث لوگ بھی bail لے کر باہر آجاتے ہیں۔ We need to counter that. جب تک ہم ان چیزوں کو control نہیں کریں گے اور جب تک یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی طرف مس شاہانہ افسر نے نشاندہی کی، موجود رہیں گے تو نہ صرف law and order situation کو threat رہے گا بلکہ peaceful coexistence کو بھی بہت زیادہ threat رہے گا۔ That is all. شکر یہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔

Madam Deputy Speaker: Now I put the resolution to the House moved by Miss Shahana Afsar.

(The motion was carried)

Madam Deputy Speaker: The House is adjourned to meet again at 9:30 am tomorrow.

[The House was then adjourned to meet again on Saturday, the July 6, 2013 at 9:30 am.]